

# اسلامی سلطنتیں

تاریخ کی تمام اسلامی سلطنتوں کا عہد بہ عہد تذکرہ

کلیفورنیا کی پوسٹ





# اسلامی سلطنتیں

اسلامی حکومتوں اور حکمرانوں کے عروج و زوال کی عہد بہ عہد داستان

کلیفورڈ ای بوسورتھ

ترجمہ: یاسر جواد

انشاء اللہ عزوجل

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔

*M. Shahid Raza Attari*

0306-0313-7919528 اسلامی بکس، قرآن

مدنی

مدنی عطر ہاؤس

امپورٹڈ عطریات، قرآن پاک، اسلامی بکس، تسبیحات، ٹوپی، عمامے  
موزے، مسواک، گلوز، میلاد پرچم، بینرز، گاہول سیل پوائنٹ

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad.  
Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com



A translation of

## "Islamic Dynasties"

Written By:

C.E. Bosworth

Translated By:

Yasir Jawad

Published By:

Asif Javed

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without prior permission from the publisher.

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: اسلامی سلطنتیں

مصنف: کلیفورڈ ای بوسورتھ

ترجمہ: یاسر جواد

انشاء اللہ عزوجل

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔

M. Shahid Raza Attari

0306-0313-7919528 اسلامی بکس، قرآن

مدنی

انڈیا  
مدنی عطر ہاؤس

امپورٹڈ عطریات، قرآن پاک، اسلامی بکس، تسمیحات، ٹوپی، عمامے  
موزے، مسواک، گلوں، میلا دپرچم، بینرز، گاہول، سیل پوائنٹ

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad.  
Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

## فہرست

### حصہ اول ..... خلفاً

- 7 \_\_\_\_\_ 1- خلفائے راشدین (61-632/40-11)
- 9 \_\_\_\_\_ 2- اموی خلفاً (750-661/132-41)
- 11 \_\_\_\_\_ 3- عباسی خلفاً

عراق اور بغداد میں (1258-656/749-132)

قاہرہ میں (1517-1261/923-659)

### دوسرا حصہ ..... سپین اور شمالی افریقہ

- 17 \_\_\_\_\_ 4- ہسپانوی اموی ..... 1031-422/756-138
- 20 \_\_\_\_\_ 5- سپین میں ملوک الطوائف ..... گیارھویں صدی عیسوی
- 24 \_\_\_\_\_ 6- ناصر بن ابوالاحمر (1492-1230/897-627)
- 26 \_\_\_\_\_ 7- اورلسی (926-789/341-172)
- 28 \_\_\_\_\_ 8- رستمی (909-777/296-160)
- 30 \_\_\_\_\_ 9- اعلیٰ (909-800/296-184)
- 31 \_\_\_\_\_ 10- زیری اور حمادی (1152-972/547-361)
- 33 \_\_\_\_\_ 11- المورادی یا المرابطون (1147-1056/541-448)
- 35 \_\_\_\_\_ 12- الموہادی یا الموحدون (1269-1130/667-524)
- 37 \_\_\_\_\_ 13- مرینی اور وطاسی (1549-1196/956-592)
- 40 \_\_\_\_\_ 14- حفصی (1574-1228/982-625)
- 43 \_\_\_\_\_ 15- مراکش کے شریف (1511- / 917- )
- 47 \_\_\_\_\_ 16- سنوسیہ (1837- / 1293- )

### تیسرا حصہ ..... زرخیز ہلال: مصر، شام اور عراق

- 49 \_\_\_\_\_ 17- طولونی (905-868/92-254)

- 18- اشیدی (323-58/935-69) \_\_\_\_\_ 50
- 19- فاطمی (297-567/909-1171) \_\_\_\_\_ 51
- 20- حمدانی (293-394/905-1004) \_\_\_\_\_ 54
- 21- مزیدی (اندازاً 350-545/961-1150) \_\_\_\_\_ 56
- 22- مروانی (372-478/983-1085) \_\_\_\_\_ 58
- 23- عقیلی (اندازاً 380-489/990-1096) \_\_\_\_\_ 59
- 24- ہرداسی (414-72/1023-79) \_\_\_\_\_ 62
- 25- ایوبی (پندرھویں صدی کا آخر-1169/نویں صدی کا آخر-564) \_\_\_\_\_ 63
- 26- مملوک (648-922/1250-1517) \_\_\_\_\_ 68
- 27- محمد علی کا سلسلہ (1220-1372/1805-1953) \_\_\_\_\_ 72
- 28- قرامطہ (11ویں صدی کا آخر-894/پانچویں صدی کا آخر-281) \_\_\_\_\_ 75
- 29- یمن کے زیدی امام یا Rassids \_\_\_\_\_ 76
- 30- سلجوقی (439-532/1047-1138) \_\_\_\_\_ 79
- 31- رسولی (626-858/1229-1454) \_\_\_\_\_ 81
- 32- آل بوسعید، مسقط اور اس کے بعد زیزی بار کا سلطان (-1741/1154) \_\_\_\_\_ 82
- 33- آل سعود یا وہابیہ (-1746/1159) \_\_\_\_\_ 85
- 34- ہاوندی (45-750/665-1349) \_\_\_\_\_ 88
- 35- مسافری یا سلاری یا کنگری (304-483/916-1090 اندازاً) \_\_\_\_\_ 91
- 36- روادی (1071-ابتدائی دسویں صدی/463-ابتدائی چوتھی صدی) \_\_\_\_\_ 92
- 37- شدادی (340-571/651-1174 اندازاً) \_\_\_\_\_ 94
- 38- زیاری (315-483/927-1090) \_\_\_\_\_ 96
- 39- بیوئی یا یوہبی (320-454/932-1062) \_\_\_\_\_ 97
- 40- کالوئی یا کاکوی (398-443/1008-51) \_\_\_\_\_ 100
- 41- طاہری (205-59/821-73) \_\_\_\_\_ 102
- 42- سامانی (204-395/819-1005) \_\_\_\_\_ 103

105 \_\_\_\_\_ 43- صفاری (253-900/867-1495)

108 \_\_\_\_\_ 44- خوارزم شاہان

111 \_\_\_\_\_ 45- قراخانی (382-607/992-1211)

### جہڑا حصہ ..... سلجوق اور اتایگ

115 \_\_\_\_\_ 46- سلجوق (429-590/1038-1194)

119 \_\_\_\_\_ 47- ارٹوکید (495-811/1102-1408)

121 \_\_\_\_\_ 48- زنگی (521-619/1127/1222)

123 \_\_\_\_\_ 49- الدیگوزی یا ال دیگیزی (531-622/1137-1225)

124 \_\_\_\_\_ 50- سلغوری (543-668/1148-1270)

125 \_\_\_\_\_ 51- اسماعیلی یا اسماعیلی

### ساتواں حصہ ..... اناطولیہ اور ترک

128 \_\_\_\_\_ 52- روم کے سلجوق (470-707/1077-1307)

131 \_\_\_\_\_ 53- دانشمندی (464-573/1071-1177)

132 \_\_\_\_\_ 54- قرمانی (654-888/1256-1483 اندازاً)

134 \_\_\_\_\_ 55- عثمانی (680-1342/1281-1924)

### آٹھواں حصہ ..... منگول

139 \_\_\_\_\_ منگول یا چنگیزی

140 \_\_\_\_\_ 56- منگول عظیم خان، اوگیدی اور اولیوی کی نسل

142 \_\_\_\_\_ 57- چغتائی، ہنغے کی نسل

145 \_\_\_\_\_ 58- ال خانی، قبلائی کے بھائی ہونگیو کی نسل

147 \_\_\_\_\_ 59- سنہری جتھے کے خان، جوچی کی اولاد

151 \_\_\_\_\_ 60- شیبانی، جوچی کی اولادیں (9051007/1500-98)

152 \_\_\_\_\_ 61- کریمیا کے گرے خان، جوچی کی اولادیں



## نواں حصہ ..... منگولوں کے بعد کا فارس

- 157 \_\_\_\_\_ 62- مظفری (713-95/1314-93)
- 162 \_\_\_\_\_ 63- جلایری (736-835/1336-1432)
- 160 \_\_\_\_\_ 64- تیموری (771-912/1370-1506)
- 162 \_\_\_\_\_ 65- قراقویینلو (782-873/1380-1468)
- 164 \_\_\_\_\_ 66- اق قویینلو (780-914/1378-1508)
- 166 \_\_\_\_\_ 67- صفوی (907-1145/1501-1732)
- 168 \_\_\_\_\_ 68- افشاری (1148-1210/1736-95)
- 170 \_\_\_\_\_ 69- زند (1163-1209/1750-94)
- 171 \_\_\_\_\_ 70- قاجار (1193-1342/1779-1924)

## دہواں حصہ ..... افغانستان اور ہندوستان

- 174 \_\_\_\_\_ 71- غزنوی (366-582/977-1186)
- 176 \_\_\_\_\_ 72- غوری (390-612/1000-1215 اندازاً)
- 178 \_\_\_\_\_ 73- سلاطین دہلی (602-962/1206-1555)
- 185 \_\_\_\_\_ 74- سلاطین بنگال (737-984/1336-1576)
- 189 \_\_\_\_\_ 75- سلاطین کشمیر (747-997/1346-1589)
- 191 \_\_\_\_\_ 76- سلاطین گجرات (793-991/1391-1583)
- 193 \_\_\_\_\_ 77- جوینپور کے شرقی سلاطین (796-883/1394-1479)
- 195 \_\_\_\_\_ 78- مالوہ کے سلاطین (804-937/1401-1531)
- 196 \_\_\_\_\_ 79- بھمنی اور ان کے جانشین (748-934/1347-1527)
- 199 \_\_\_\_\_ 80- خاندیش کے فاروقی سلاطین (772-1009/1370-1601)
- 201 \_\_\_\_\_ 81- شاہان مغلیہ (932-1274/1526-1858)
- 205 \_\_\_\_\_ 82- افغانستان کے بادشاہ (1160- /1747- )
- 208 \_\_\_\_\_ مترجم کا نوٹ

## خلفاً

1- خلفائے راشدین

(11-40/632-61)

حضرت ابو بکرؓ	41/661
حضرت عمرؓ بن ابن الخطاب	13/634
حضرت عثمانؓ بن عفان	23/644
حضرت علیؓ ابن ابی طالب	35-40/656-61

### اموی خلفاً

رسول اللہ کا وصال جون 632ء میں ایک مختصر علالت کے نتیجہ میں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد کچھ ایک بدوؤں نے امہ سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن عرب کی سیاسی یگانگت قائم رہی۔ انجام کار متذبذب قبائل نے بھی ایک خدا کا مذہب قبول کر لیا: رسول اللہ کی شاندار کامیابی نے عربوں پر واضح کر دیا تھا کہ ان کی صدیوں پرانی بت پرستی جدید دنیا میں کارآمد نہیں۔ اللہ کے دین نے بھائی چارے کی اقدار متعارف کروائیں جو زیادہ ترقی پسند مذاہب کا طرہ امتیاز تھیں: اخوت اور سماجی انصاف اس کی اہم ترین خوبیاں تھیں۔

پنجمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کے چار قریب ترین پاکباز، ساتھی باری باری مسلم امہ کے خلیفہ بنے۔ انہوں نے ”خلیفہ“ کا لقب اختیار کیا۔ حضرت ابو بکرؓ ان میں سب سے زیادہ عمر کے اور رسول اللہ کی پیاری بیوی حضرت عائشہؓ کے والد تھے۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہایت قریبی تعلق رکھتے تھے۔ جب جزیرہ نما العرب کے بدو قبائل نے رسول اللہ کو ماننے سے انکار کیا تو



حضرت ابو بکر نے ہی مدینہ کی حاکمیت منوائی۔ حضرت عمرؓ کی بھی ایک بیٹی کو رسول اللہؐ کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہی کی زبردست عسکری قیادت میں ہی صحرائی عربوں کی عسکری توانائیوں کو شام، فلسطین اور مصر بازنطینی علاقوں اور فارس و عراق کے ساسانی علاقوں کے خلاف بروئے کار لایا گیا۔ حضرت عمرؓ بھی ایک زبردست منتظم تھے اور انہوں نے ہی مفتوحہ صوبوں میں باقاعدہ سول انتظامیہ متعارف کروائی اور عرب مجاہدین کو وظائف دینے کا نظام دیوان ایجاد کیا۔ آپ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔

حضرت عثمانؓ رسول اللہؐ کے داماد اور تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کے آخری برسوں کے دوران ناخوش عناصر نے بغاوت کی اور آخر کار آپ کو 35/656 میں شہید کر دیا۔ اس قتل کے نتیجہ میں پھوٹ اور انتشار پیدا ہوا اور کئی برس تک جاری رہا۔ اس لیے بعد میں اس دور کو باب المفتوح کہہ کر یاد کیا گیا۔ آخری خلیفہ راشد حضرت علیؓ رسول اللہؐ کے ساتھ تہر تعلق رکھتے تھے۔ چچا زاد اخوتی بھائی اور داماد۔ چنانچہ کچھ لوگ انہیں رسول اللہؐ کی میراث کا اصل امین سمجھتے تھے۔ لیکن وہ شام کے گورنر معاویہ بن ابوسفیان کے علاقوں کو کبھی بھی اپنے ماتحت نہ لاسکے۔ انہوں نے اپنا دار الخلافہ کوفہ منتقل کیا، عراق کے عربوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور دریائے فرات سے اوپر صفین کے مقام پر امیر معاویہ سے لڑائی کی مگر کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد عراق میں ان کے فرزند حسن نے نیم مایوسی کے عالم میں خلافت سنبھالی، لیکن جلد ہی حضرت امیر معاویہ نے انہیں دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔

بعد کے دور میں پہلے چار خلفاء کے عہد کو عہد زریں کہا گیا جس میں اسلامی اقدار نے فروغ پایا۔ انہیں اموی خلفاء سے ممتاز کرنے کے لیے خلفائے راشدین (راست رو) کہا جاتا ہے۔

اسلامی تاریخ کے ابتدائی برسوں میں خلیفہ کی حیثیت اور اس کی حیثیت کے حوالے سے سیاسی غور و فکر کے نتیجہ میں بہت سی بنیادی باتوں کے متعلق قیاس آرائی کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں

عالمانہ بحثیں ہوئیں کہ امہ کی قیادت کس قسم کے شخص کو سونپی جاوے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد مسلمانوں پر عیاں ہوا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے تھے جو مدینہ کے چھوٹے سے اور جنگ زدہ معاشرے سے بہت مختلف تھی۔ اب وہ ایک وسعت پذیر سلطنت کے مالک تھے اور ان کے رہنما لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے۔ طبقہ اشراف اور دربار میں تعیش اور بے ایمانی کا دور دورہ تھا۔ نہایت پرہیزگار مسلمانوں نے قرآن کے سوشلسٹ پیغام کے ساتھ اسٹیٹسمنٹ کو لاکار اور اسلام کو نئے حالات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ متعدد حل اور فرتے پیدا ہو گئے۔

مقبول ترین حل روایت پسندوں نے تلاش کیا جنہوں نے رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے مثالی تصورات کی بحالی کی کوشش کی۔

## 2- اموی خلفاء

(41-132/661-750)

معاویہ بن ابی سفیان	41/661
یزید اول	60/680
معاویہ دوم	64/683
مروان اول بن الحکم	64/684
عبدالملک	65/685
الولید اول	86/705
سلیمان	96/715
عمر بن عبدالعزیز	99/717
یزید دوم	101/720
ہاشم	105/724
الولید دوم	125/743



یزید سوم

126/744

ابراہیم

126/744

مروان دوم الحمار

127-32/744-50

عباسی خلفاً

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہؓ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیا (حضرت امیر معاویہؓ حضرت عثمانؓ کے قبیلے امیہ یا عبد شمس سے ہی تعلق رکھتے تھے)۔ امیر معاویہؓ نے شام پر بیس سال سے حکومت کر رہے تھے اور انہوں نے بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگ کی تھی۔ نتیجتاً ان کے پاس ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج موجود تھی جسے وہ حضرت علیؑ کی حمایت کرنے والے بدوؤں کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔

سلطنت کے تین اعلیٰ ترین جرنیل، امیر معاویہؓ، عبدالملک اور ہشام، نے شام پر تقریباً بیس برس تک حکومت کی تھی اور عربوں کی فتح کردہ سلطنت کے نہایت اعلیٰ منتظم تھے۔ وہ یونانیوں اور اہل فارس کے انتظامی طریقوں کو اپنی حکومت میں متعارف کروانے اور انہیں اپنانے میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے، اور موخراموی دور میں کئی ساسانی ٹیکنیکس دیکھنے کو ملتی ہیں، اور عباسیوں کے عہد میں یہ عمل اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ عسکری فتوحات اب بھی تیزی سے جاری تھیں، بالخصوص الولید اول کے دور میں، حالانکہ اب عرب افواج کو دور دراز کوہستانی علاقوں اور شدید موکی حالات میں لڑنا پڑتا تھا، اور اب لوٹ مار بھی اتنی آسانی سے نہیں کی جاسکتی تھی۔ مصر کے مغرب میں سارے شمالی افریقہ پر قبضہ ہو چکا تھا، 91/710 میں مسلمان افواج آبنائے جبل الطارق سے گذر کر سپین میں جا پہنچے، اور پھر کیرولنگی فرانس پر حملہ کیا۔ کاشیا سے پرے ترکوں کے ساتھ تعلق واسطہ بنا اور مشرقی اناطولیہ میں یونانی سرحدوں میں مداخلت کی گئی۔ مشرقی ایران میں خوارزم پر حملہ کیا گیا اور مقامی ایرانی حکمرانوں اور ان کے ترک حلیفوں کی مدافعت کے باوجود جیحون کے اُس پار کا علاقہ اسلام کے لیے حاصل کر لیا گیا۔ انجام کار عرب سپہ سالار مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور پہلی مرتبہ سرزمین ہندوستان میں اسلام کے بیج بوسے۔ یہ تمام فتوحات اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے ذریعہ اسلامی دنیا میں غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد آگئی؛ ان

مزدوروں کے استعمال نے عربوں کو اس قابل بنایا کہ وہ مفتوحہ علاقوں سے لگان وصول کریں اور زرخیز ہلال کی معاشی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں۔

تاہم یہ انتظامی اور معاشی ترقی اموی خلافت کا انحطاط نہ روک سکی۔ خلفاً کو عراق کے عرب قبائلیوں اور مدینہ میں موجود دینی عناصر (جن میں سے متعدد وہیعیان علی تھے) کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید برآں مفتوحہ علاقوں میں غیر عرب لوگوں (موالی) کی بہت بڑی تعداد نے بھی سر اٹھانا اور اپنی دوسرے درجے کے شہری والی حیثیت پر اظہار ناراضگی کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہذا 132/750 میں خراسان یا مشرقی فارس سے شروع ہونے والے انقلاب (جس کی قیادت ابو مسلم کر رہا تھا) نے امویوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ ابو مسلم نے عباسیوں کے لیے خلافت حاصل کرنے کی خاطر مختلف قسم کی رنجشوں کو استعمال کیا۔ امویوں کے ایک قتل عام میں خاندان کے چند زندہ بچنے والے افراد میں سے ایک ہشام کا پوتا عبدالرحمان تھا؛ وہ بھاگ کر شمالی افریقہ چلا گیا اور آخر کار سین میں امویوں کے ایک تازہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔

### 3- عباسی خلفاً

#### 1- ایران اور بغداد میں..... 1258-656/749-132

السفاح	132/749
المصور	136/754
المہدی	158/775
الہادی	169/785
ہارون الرشید	170/786
الامین	193/809
المأمون	198/813
ابراہیم المہدی، بغداد میں	201-3/817-19
المعتصم	218/833



الواثق	227/842
المتوکل	232/847
المستعصر	247/861
المستعین	248/862
المعز	252/866
المجیدی	255/869
المعتد	256/870
المعتد	279/892
المکتفی	289/902
المقدر	295/908
القاهر	320/932
الرازی	322/934
المعتفی	329/940
المستکفی	333/944
الطیح	334/946
الطامی	363/974
القادر	381/991
القائم	422/1031
المقادی	467/1075
المستخفر	487/1094
المسترشد	512/1118
الراشد	529/1135
المکتفی	530/1136

المسجد	555/1160
المسجد	566/1170
الناصر	575/1180
الظاهر	622/1225
المستصر	623/1226
المستصرم	640-56/1242-58

بغداد میں منگولوں کی لوٹ مار

## 2- قاہرہ میں..... 659-923/1261-1517

المستصر	659/1261
الحاکم اول	660/1261
المستغنی اول	701/1302
الواثق اول	740/1340
الحاکم دوم	741/1341
المعتد اول	753/1352
المتوکل اول (پہلا دور حکومت)	763/1362
المعتصم (پہلا دور حکومت)	779/1377
المتوکل اول (دوسرا دور حکومت)	779/1377
الواثق دوم	785/1383
المعتصم (دوسرا دور حکومت)	788/1386
المتوکل اول (تیسرا دور حکومت)	791/1389
المستعین	808/1406
المعتد دوم	816/1414
المستغنی دوم	845/1441



القائم	855/1451
المستعجد	859/1455
التوکل دوم	884/1479
المستمک (پہلا دور حکومت)	903/1497
التوکل سوم (پہلا دور حکومت)	914/1508
المستمک (دوسرا دور حکومت)	922/1516
التوکل سوم (دوسرا دور حکومت)	923/1517

### عثمانیوں کا مصر فتح کرنا

عباسیوں کا تعلق رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت العباس کے خاندان سے تھا، اور اسی حسب نسب کی بنا پر، امویوں کے برعکس، وہ زیادہ تقدس کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے باوجود ابتدائی عباسیوں کو محبان علی کی وقتاً فوقتاً بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جو خود کو خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ عباسیوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد اپنے دفاع کی خاطر جلد ہی پر شکوہ القاب اپنانے شروع کر دیے۔ یہ کام امویوں نے بھی کیا تھا۔ ان القابات میں خدا پر انحصار اور عباسی حکمرانوں پر خدا کی نظر کرم کا دعویٰ کیا گیا۔ عباسی حاکمیت کی تھیو کریک نوعیت دوسرے طریقوں سے واضح ہوئی اور راسخ العقیدہ مذہبی ادارے کو ہر ممکن حد تک سلطنت کا حامی بنا دیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ رجحانات پرانے فارسی مذہبی۔ سیاسی تصورات کے مرہون منت ہوں کیونکہ عباسیوں کو برسر اقتدار لانے والے ابو مسلم کا انقلاب بنیادی طور پر فارسی ماخذ رکھتا تھا۔ دار الخلافہ کی دمشق سے بغداد منتقلی مشرق کی جانب نئے جھکاؤ کی عکاس ہے۔

اموی دور میں اسلامی سلطنت حقیقی معنوں میں اپنی انتہائی حدود تک پہنچی اور عباسی عہد میں بھی سرحدیں جوں کی توں قائم رہیں۔ بس چند ایک خلفائے نے ہی عملی سپاہی ہونے کا امتیاز حاصل کیا..... المامون اور معتصم نے اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف کامیاب فوجی مہم جوئی کی..... اور نویں اور دسویں صدیوں میں یہ مسلمان ہی تھے جنہیں پر جوش مقدونیا کی شہنشاہوں کے سامنے دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا۔ نویں صدی میں ہی خلافت کا سیاسی اتحاد زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا

تھا۔ امویوں کی ایک شاخ پوری خود مختاری کے ساتھ سپین پر حکومت کر رہی تھی اور بحیثیت مجموعی شمالی افریقہ اس قدر دور تھا کہ اس کا موزوں طریقے سے انتظام ہاںصرام نہیں چلایا جاسکتا تھا۔ مصر میں طولونی خود مختاری اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ فارس میں طاہرنی گورنروں کے بعد سامانیوں اور صفویوں جیسی مقامی ایرانی سلطنتیں آئیں، جنہوں نے بغداد کو کچھ خراج تو ادا کیا لیکن بصورت دیگر انہیں یونہی چھوڑ دیا گیا۔ عباسیوں کی موثر سیاسی طاقت عراق تک محدود ہو کر رہ گئی، سب سے بڑھ کر دسویں صدی میں، جب سیاسی شیعیت نے اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر فتح حاصل کر لی۔ فاطمیوں نے قاہرہ کے خلفاً سے دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے پہلے شمالی افریقہ اور اس کے بعد مصر و شام پر قبضہ کر لیا۔ عراق اور فارس میں دیلمی بیوی مسند اقتدار تک پہنچے، 334/945 میں بغداد میں داخل ہوئے اور خلفاً کو کٹھ پتلیاں بنا کر رکھ دیا۔ ان کے پاس اپنے اخلاقی اور روحانی اثر و رسوخ کے سوا کچھ بھی نہ رہا۔ 447/1055 میں ترکی سلجوقوں کے ظہور نے خلفاً کو اس فرقہ پرستانہ مذہبی دباؤ سے نجات دلائی۔ وہ خود راسخ سنی ہونے کے باوجود خلفاً کی سیاسی طاقت بحال کرنے کے حق میں نہ تھے۔ کہیں بارہویں صدی میں ہی آ کر، جب عظیم سلجوق اپنے اتحاد و یگانگت سے محروم ہوئے اور ان کی طاقت کمزور پڑ گئی تو اہلکشمی اور الناصر جیسے باصلاحیت خلفاً کی سرکردگی میں عباسیوں کی تقدیر بدلنے لگی۔ بد قسمتی سے منگول تباہ کاریوں کی وجہ سے یہ بحالی کا عمل منقطع ہو گیا، اور 565/1258 میں ہولیکو نے بغداد کے آخری خلیفہ کا خون کر دیا۔

عباسی حکومت کی پہلی تین صدیوں قرون وسطیٰ کی اسلامی تہذیب کی مکمل افزائش دیکھی۔ ادب، الہیات، فلسفہ اور فطری علوم کے میدان میں ترقی ہوئی، اور فارس و ہیلینیائی دنیا سے آنے والے اثرات انہیں زرخیز بناتے رہے۔ معاشی اور تجارتی ترقی کا دائرہ بہت وسیع تھا، سب سے بڑھ کر فارس اور عراق، مصر کے نسبتاً پرانے اور عرصہ سے آباد علاقوں میں؛ اور ایشیائی۔ یورپی ڈھلانوں، مشرق بعید، ہندوستان اور افریقہ جیسے بیرونی علاقوں کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار ہوئے۔ دسویں صدی کی سیاسی ناکامی اور عدم تحفظ کے باوجود مادی اور ثقافتی شعبوں میں یہ ترقی جاری رہی، اور آدم میز جیسے سوشل مستشرقین کے لیے اس دور کو اسلامی نشاۃ ثانیہ قرار دینا قرین قیاس تھا۔ گیارہویں صدی اور بعد کی ترک سلطنتیں اسلام کے ثقافتی تانے بانے میں شامل ہوتی

گئیں۔ اسلام کے شدید دشمنوں منگولوں نے ہی اس تانے بانے کو بگاڑا۔

یوں خلافت بغداد کا خاتمہ منگولوں کے ہاتھوں ہوا، لیکن جلد ہی مصر کے مملوک سلطان بھرس نے خلیفہ بننے کا فیصلہ کیا اور بغداد کے آخری عباسی کے چچا (جو قتل عام میں بچ جانے والے شاہی افراد میں سے ایک تھا) کو قاہرہ آنے کی دعوت دی (659/1261)۔ اس خلیفہ نے ایک فوج تیار کی اور بغداد کو فتح کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ وہ اس کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اگلے برس ایک اور عباسی تخت نشین ہوا۔ خلیفہ کے قاہرہ میں قیام نے مملوک حکومت کو جائز بنانے میں کردار ادا کیا، اور یہ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جنگ میں ایک اخلاقی ہتھیار تھا۔ مزید برآں خلفائے، جیسا کہ بغداد میں ہوا تھا، فتوے جاری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن مملوک ریاستوں میں ان کا کوئی عملی اختیار نہ تھا، اور یقیناً سلاطین کے ساتھ اختیارات کی تقسیم کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ آخری خلیفہ المتوکل سوم کو سلیم 923/1517 the Grim میں استنبول لے گیا، لیکن یہ کہانی محض انیسویں صدی میں تراشا گیا ایک فسانہ ہے کہ تب اس نے خلافت پر اپنے حقوق عثمانی سلاطین کو منتقل کر دیے۔



## سپین اور شمالی افریقہ

4- ہسپانوی اموی..... 1031-422/756-138

عبدالرحمان اول الداخل	138/756
ہشام اول	172/788
الحاکم اول	180/796
عبدالرحمان دوم المتوسط	206/822
محمد اول	238/852
المندھر	273/886
عبداللہ	275/888
عبدالرحمان سوم الناصر	300/912
الحکم دوم المستنصر	350/961
ہشام دوم المعید، پہلا دور حکومت	366/976
محمد دوم المہدی، پہلا دور حکومت	399/1009
سلیمان المستعین، پہلا دور حکومت	400/1009
محمد دوم، دوسرا دور حکومت	400/1010
ہشام دوم، دوسرا دور حکومت	400/1010
سلیمان، دوسرا دور حکومت	403/1013
حمود العللی الناصر	407/1016
عبدالرحمان چہارم المرتضیٰ	408/1018
حمود والقاسم المامون، پہلی مرتبہ	408/1018

حمود یحییٰ المعطلی، پہلی مرتبہ	412/1021
حمود القاسم، دوسری مرتبہ	413/1022
عبدالرحمان بن محمد المستمیر، دوسری مرتبہ	414/1023
محمد سوم المستکفی	414/1024
حمود یحییٰ، دوسری مرتبہ	416/1025
ہشام سوم المعتد	418-22/1027-31

## ملوك الطوائف

عرب اور بربری افواج نے مراکش سے جبل الطارق کی آبنائوں کو عبور کیا اور 92/711 میں سپین میں داخل ہو کر وہاں کی حکمران جرمن عسکری اشرافیہ Visigoths کو معزول کر دیا۔ بعد کے عشروں کے دوران انہوں نے Visigoths کی باقیات کو کینٹمبرین پہاڑوں میں آئسیریائی جزیرہ نما تک بھگا دیا، اور حتیٰ کہ پائرینے سے آگے فرینکس گال تک جا پہنچے۔ آخر کار چارلس مارل نے انہیں پونٹیز کے مقام پر شکست دی (114/732)۔ ان ابتدائی برسوں کے دوران سپین پر یکے بعد دیگرے کئی عرب گورنروں کی حکومت قائم ہوئی جنہیں مشرق کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ لیکن 138/756 میں عبدالرحمان اول (جو بعد ازاں الداخل کے طور پر مشہور ہوا) اور عباسی انقلاب میں قتل و غارت سے بچ جانے والے چند امویوں میں سے ایک، سپین میں نمودار ہوئے اور وہاں اموی امیری کی بنیاد رکھی۔

ایک جغرافیائی اعتبار سے دشوار گزار علاقے میں امویوں کی کامیابی یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ امارت کا دار و مدار سیویلی اور کارڈوبا پر تھا لیکن صوبوں پر امیروں کا اختیار کم محفوظ تھا۔ اگرچہ ہسپانوی رومن آبادی کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد عیسائیت پر ہی کار بند رہی، اور وہ اخلاقی و مذہبی مدد کے لیے شمالی عیسائیوں کی جانب دیکھتے تھے۔ بالخصوص Visigoths کے قدیم مرکزی مقام تولید اور سپین کے کلیسائی مرکز شورش اور بغاوت کا گڑھ تھا۔ مسلمانوں کے درمیان متعدد مقامی بادشاہ تھے جن کی عسکری طاقت نے انہیں کارڈوبا سے خود مختار حیثیت میں زندگی گزارنے کے قابل بنایا؛ انہوں نے سب سے زیادہ شمال

مشرقی وادی ایبرو میں ترقی حاصل کی۔ نویں صدی کے دوسرے نصف میں مرکزی حکومت کے خلاف طویل بغاوت کے دو مراکز تھے..... ایک بداجوز میں ابن مروان گالیثائی کے ماتحت اور دوسرا غرناطہ کے پہاڑوں میں ابن حفصون کے ماتحت۔

ان کمزوریوں کے اور شمال کی چھوٹی چھوٹی عیسائی سلطنتوں کی مسلسل خود مختاری کے باوجود ہسپانوی امویوں نے کارڈوبا کو تجارت اور صنعتی پیداوار کا ایک شاندار مرکز بنا دیا؛ اور یہ عرب ثقافت اور تعلیم کا گھر ہونے کی حیثیت میں صرف قاہرہ اور بغداد سے کمتر تھا۔ دسویں صدی پر سلطنت کے عظیم ترین حکمران عبدالرحمان دوم المعروف انصر (فاتح) کا غلبہ رہا جس نے پچاس برس (300-5/912-61) تک حکومت کی۔ وہ طوکیت کی طاقت کو ایک نئی انتہا تک لے گیا، درباری رسوم کو اور زیادہ مجلسی بنایا گیا، غالباً بازنطینی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور عبدالرحمان نے اہل ایمان کا سپہ سالار اور خلیفہ ہونے کا لقب اختیار کر کے اپنے دشمن فاطمیوں کا مقابلہ کیا۔ یوں خلافت واحد اور غائب النظر ہونے کی تھیوری کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ افریقہ سے بربری فوجیوں کی بھرتی اور عیسائی یورپ کے تمام حصوں سے غلام فوجی لاکر فوج کی طاقت کو اور زیادہ مستحکم کیا گیا۔ شمالی عیسائیوں نے سر تسلیم خم کیا اور شمالی افریقہ میں ایک اینٹی فاطمی پالیسی شروع کی گئی۔ دسویں صدی کے آخری برسوں میں ریاست کی اصل طاقت اور اختیارات حاجب یعنی وزیر اعظم ابن ابی عامر کو دے دیے گئے جس کا لقب المنصور تھا۔ اسی نے بارسلونا پر قبضہ کیا اور گالیسیا میں کمپوسٹیلہ کے مقام ہرینٹ جیمز کے مقبرے کو لوٹا۔

تاہم گیارہویں صدی کی ابتدا میں، ہنوز نامعلوم وجوہ کی بنا پر، اموی خلافت تقسیم ہو گئی۔ مختصر عرصہ کے لیے بننے والے خلفاً کے ایک سلسلے میں باری باری حمودی خاندان، ملاگا کے مقامی حکمران اور اس کے بعد الجیسیرس (Algeciras) برسر اقتدار آئے۔ آخر کار 422/1031 میں امویوں کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان سپین سیاسی لحاظ سے ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا اور اس دوران مختلف مقامی شہزادے اور نسل گروہ اقتدار پر قابض رہے۔



## 5- سین میں ملوک الطوائف

## گیارہویں صدی عیسوی

خلافت امویہ کے انہدام اور المورادیوں کی آمد کے درمیان تقریباً آدھی صدی کا دور سیاسی پھوٹ اور کا حال تھا، اگرچہ اس میں ثقافتی رنگارنگی موجود تھی۔ تقریباً 23 مقامی بادشاہوں نے الاندلس کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا، ان میں سے کچھ تو محض شہری ریاستیں تھیں اور باقی کا وسیع علاقے پر قبضہ تھا، جیسے جنوب مغرب میں افطسی۔ یہ سلطنتیں مختلف نسلوں پر مشتمل اور امویوں کے دور میں فوجی طبقات کی کثیرالنسلی اور ان گروہوں کے مابین نسلی رقابتوں کی عکاس تھیں۔ کچھ ایک خالصتاً عرب تھے، جیسے سیویلی کے عباسی اور ساراگوسا کے ہودی۔ دیگر بربری تھے، جیسے بداجوز کے مکناسا افطسی۔ کچھ طائفے افریقہ سے آنے والے فوجیوں میں سے نکلے جنہوں نے دسویں صدی کے اختتام پر المنصور کے دور میں جگہ سنبھال لی تھی، مثلاً ایلویرا کے صنہاج بربرزیری؛ اور عامری کلائٹس اور المنصور کی اولادوں کے ایک گروپ نے ویلنسیا میں ترقی پائی۔ جنوب مشرق کے کئی علاقوں، مثلاً تورٹوسا، دینیا اور اجڈاویلنسیا، میں صقلیمی نسل کے عسکری کمانڈروں نے ایک موقع پر اقتدار پر قبضہ رکھا۔

دیگر طائفوں نے اپنے پڑوسیوں کی قیمت پر انتہا پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھا۔ عباسی تقریباً تولید و تک پہنچ گئے۔ متعدد طائفے سازش کرنے یا حتیٰ کہ اپنے عیسائیوں کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف مدد کے لیے بلانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ آخری افطسی عمر المتوکل المورادیوں کے خلاف مدد کے بدلے میں اپنے زیر اختیار پر محالی علاقے کو لیوں اور کاسٹیلے کے الفونسوششم کے حوالے تک کرنے کو تیار تھا۔

گیارہویں صدی کے اختتام کے قریب سین میں مسلمانوں کے خلاف لہر واضح ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مذہبی طبقات نے متعدد حکمرانوں کی نشاط انگیزی اور غیر ذمہ داری کے خلاف احتجاج کیا اور وہ پورے یطانی بربر المورادیوں کی حکومت کو قبول کرنے کو تیار تھے۔ 418/1085 میں تولید و پر عیسائی قبضے عباسی شاعر بادشاہ المستمد کی جانب سے المورادیوں کو مدد کے لیے پکارنا ناگزیر بنا دیا۔

ملوک الطوائف کے درمیان اہم ترین سلطنتیں مندرجہ ذیل تھیں:

- (400-49/1010-57) ملاگا اور الجسیرس میں حمودی
- (414-84/1023-91) سیویلی میں عباسی
- (403-83/1012-90) غرناطہ میں زیری
- (414-43/1023-51) عمیلا میں بنو یحییٰ
- (419-45/1028-53) سلویس آلگاروے میں بنو مزین
- (402-500/1011-1107) البراسن، لاسہلا میں بنو زین
- (420-85/1029-92) الیونے میں بنو قاسم
- (422-61/1031-69) کارڈوبا میں جوہری
- (413-87/1022-94) بداجوز میں افطسی یا بنو مسلمہ
- (419-78/1028-85) تولیدو میں دھوالنیوکی
- (412-89/1021-96) ویلنسیا میں عامری
- (430-80/1039-87) المریریا میں بنو صمادیہ
- (410-536/1019-1142) Calatayud، لیریدا، توویلا، ساراگوسا، لیریدا، توویلا، Calatayud، دینیا، تور تو سا میں تجیبی اور اس کے بعد ہودی۔
- (413-601/1022-1205) مجورکا میں بنو مجاہد اور بنو غانیہ
- (483/1090) مسلم سپین کو الموراویوں کا فتح کرنا

## 1- ملاگا کے حمود

علی الناصر	400/1010
القاسم اول المامون، پہلا دور حکومت	407/1016
یحییٰ اول المعطلی، پہلا دور حکومت	412/1021
القاسم اول، دوسرا دور حکومت	413/1023
یحییٰ اول، دوسرا دور حکومت	414/1023

اوریس اول المعید	427/1036
یحییٰ دوم	430/1039
الحسن المستعصر	430/1039
اوریس دوم العلی، پہلا دور حکومت	434/1039
محمد اول المہدی	438/1046
محمد اول المعتصم	440/1048
القاسم دوم الواثق	440/1048
اوریس سوم الموفق	446/1054
اوریس دوم، دوسرا دور حکومت	446/1054
اوریس سوم المستعلی	447-9/1055-57

ملاگا میں غرناطہ کے زیریوں کے ہاتھوں مرکزی شاخ کی تسخیر اور  
الجیسیرس میں 450/1058 کے دوران عباسیوں کے ہاتھوں Cadet شاخ کی فتح

### 2- سیویلی کے عباسی

محمد اول ابن عباد	414/1023
عباد المعتضد	433/1042
محمد دوم المعتضد	461-84/1069-91

موراویوں کی فتح

### 3- کارڈوبا کے جاہوری

جاہور	422/1031
محمد الراشد	435/1043
عبد المالك	450-61/1058-69

عبادہوں کی فتح



## 4- بداجوز کے افسی

عبداللہ المنصور	413/1022
محمد المنظر	437/1045
عمر المتوکل	460-87/1068-94

الموراویوں کی فتح

## 5- تولید کے Dhu-n-Nunid

عبدالرحمان بن دمی النون	؟
اسماعیل الظفر	419/1028
یحییٰ المامون	435/1043
یحییٰ القادر	467-78/1075-85

لیوں اور کاسٹیلے کے الفونسو چہارم کی فتح

## 6- ویلنسیا کے عامری

عبدالعزیز المنصور	412/1021
عبدالملک المنظر	453/1061
Dhu-n-Nuid کا تسلط	457-1065/1065-76
ابوبکر	468/1076
القاضی عثمان	478/1085
دھوالنیونی یحییٰ القادر	478-83/1085-90
القاضی جعفر	483-9/1090-6

El Cid اور اس کے بعد موراویوں کی فتح

## 7- ساراگوسا وغیرہ کے کبھی اور ہودی

مندجیر اول المنصور	410/1019
--------------------	----------

کبھی

یحییٰ المظفر	414/1023
معز الدولہ مندھیر دوم	420/1019
	ہودی
سلیمان المستعین	430/1039
احمد اول المقدر	438/1046
یوسف المستعین	474/1081
احمد دوم المستعین	478/1085
عماد الدولہ عبدالملک	503/1110
احمد سوم المستعین	513-36/1119-42

الموراوی بالادستی میں

الفونسو اول اور آراگون کے ر امیر دوم کی فتح

## 6- ناصری یا بنوالاحمر (627-897/1230-1492)

### غرناطہ

محمد اول الغالب، المشہور ابن الاحمر	629/1232
محمد دوم الفقیہ	671/1272
محمد سوم الخلو ع	701/1302
نصر	708/1308
اسماعیل اول	713/1313
محمد چہارم	725/1325
یوسف اول	733/1333
محمد پنجم الغنی، پہلا دور حکومت	755/1354
اسماعیل دوم	760/1359

محمد ششم	761/1360
محمد پنجم، دوسرا دور حکومت	763/1362
یوسف دوم	793/1391
محمد ہفتم المستعین	797/1395
یوسف سوم	810/1407
محمد ہشتم المتوسک، پہلا دور حکومت	820/1417
محمد نهم الصغیر، پہلا دور حکومت	822/1419
محمد ہشتم، دوسرا دور حکومت	831/1427
محمد نهم، دوسرا دور حکومت	833/1430
یوسف چہارم	835/1432
محمد نهم، تیسرا دور حکومت	835/1432
محمد دہم الاخف، پہلا دور حکومت	848/1445
یوسف پنجم، پہلا دور حکومت	849/1445
محمد دہم، دوسرا دور حکومت	849/1446
محمد نهم، چوتھا دور حکومت (2-1451)۔ محمد یازدہم کے ساتھ مل کر۔	851/1447
سعد المستعین، پہلا دور حکومت	857/1453 یا 858/1454
یوسف پنجم، دوسرا دور حکومت	867/1462
سعد، دوسرا دور حکومت	867/1462
علی، پہلا دور حکومت	868/1464
محمد یازدہم، پہلی مرتبہ مکمل اختیار کے ساتھ	887/1482
علی، دوسرا دور حکومت	888/1483
محمد دوازدہم، بطور الزغال	890/1485

محمد یازدہم، دوسرا دور حکومت

892-7/1487-92

## ہسپانوی فتح

جب الموباد نے سپین کو چھوڑ دیا تو زیادہ تر مسلمان شہر تیزی سے عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے۔ کارڈوبا کو 635/1236 اور سیویلی کو 646/1248 میں شکست ہوئی۔ عرب نسل کا ایک مسلمان سردار محمد الغالب غرناطہ کے پہاڑی اور آسانی سے قابل دفاع خطے پر اختیار قائم رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے غرناطہ کے شہر کے قلعے کو (جسے الحمرا کے نام سے جانا جاتا ہے) اپنا صدر مقام بنایا، اور کاسٹیلے کے فرڈیننڈ اول اور پھر اس کے جانشین الفونسو دہم کے خراج ادا کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی۔ ناصر سلاطین نے عیسائیوں اور فیز کے مرینیوں (جو اسلام کے نام پر سپین کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے) کے مابین توازن کی پالیسی اختیار کی؛ لیکن مرینیوں کی کامیاب مداخلت کے حوالے سے مسلمانوں کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب حسن علی نے ریوسلادو کے مقام پر کاسٹیلے کے الفونسو یازدہم سے 741/1340 میں شکست کھائی۔

غرناطہ اپنی خطرناک صورتحال کے باوجود اڑھائی سو برس تک مسلم تہذیب کا مرکز رہا اور ساری مغربی مسلمان دنیا سے اہل علم و ادب وہاں آتے رہے۔ مورخ ابن خلدون محمد ششم کے سفیر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اور وزیر لسان الدین ابن الخطیب (جس کی تاریخ غرناطہ بڑی قابل قدر چیز ہے) ناصری غرناطہ کی پیدا کی ہوئی ادبی شخصیت تھا۔ لیکن 1469 میں آراگون کے فرڈیننڈ دوم کی کاسٹیلے کی از ایلا کے ساتھ شادی کے نتیجے میں مسلم سپین کے عیسائی ایک تاج کے ماتحت متحد ہو گئے اور غرناطہ کے قائم رہنے کا امکان تاریک ہو گیا۔ درحقیقت مسلمانوں نے خود بھی طے شدہ خراج ادا کرنے سے انکار اور آپس میں لڑائیاں شروع کر کے اپنے انجام کو اور بھی زیادہ قریب کر دیا۔ چنانچہ 897/1492 میں غرناطہ عیسائیوں کے ہاتھ لگ گیا اور آخری ناصری بھاگ کر مراکش چلے گئے۔

7- اور لسی (172-341/789-926)

مراکش

اور لسی اول

172/789



اور لیس دوم	177/793
محمد المستنصر	213/828
علی اول	221/836
یحییٰ اول	234/849
یحییٰ دوم	؟
علی دوم	؟
یحییٰ سوم المقدم	؟
یحییٰ چہارم	292/905
الحسن الحجام	310-14/922-26

### فاطمی فتوحات

اور لیس سلطنت پہلی ایسی سلطنت تھی جنہوں نے اہل مغرب کو شیعہ عقائد سے متعارف کروانے کی کوشش کی، چاہے بہت نرم انداز میں ہی سہی۔ ان کے عہد تک آتے آتے خطے پر خارجیوں کے انقلابی نظریہ مساوات کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اور لیس اول حسن ابن علی کا پڑپوتا تھا اور یوں اس کا تعلق شیعہ اماموں کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اس نے 169/786 میں عباسیوں کے خلاف ایک شورش میں حصہ لیا اور اسے مصر اور اس کے بعد شمالی افریقہ جانے پر مجبور کر دیا گیا جہاں شمالی مراکش کے بہت سے زمیندار بر سردار اسے حضرت علیؑ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنا رہنما ماننے لگے۔ لگتا ہے کہ اور لیس اول نے ہی، نہ کہ اس کے بیٹے اور لیس دوم نے، پرانے رومی قبضے والیوٹس کی جائے وقوع پر فینز کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ یہ جلد ہی آباد ہو گیا اور مسلمان سپین اور افریقہ کے لوگ ہجرت کر کے وہاں جانے لگے، اور یہ اور لیس صدر مقام بن گیا۔ شرفاً یعنی رسول ﷺ اللہ کے لوگوں حسن اور حسینؑ ابن علیؑ کی مراعات یافتہ اولادوں کا گھر ہونے کی وجہ سے یہ مقدس شہر کی حیثیت بھی اختیار کر گیا۔ تب سے ہی شرفاً کو مراکش تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم حیثیت حاصل رہی ہے (دیکھیے مراکش کے شریف)۔ اور لیس عہد اسلامی ثقافت کے، حال ہی میں مسلمان ہونے والے اندرون علاقہ کے، بربر لوگوں کے درمیان ترقی پانے کے حوالے سے

بھی اہمیت کا حامل ہے۔

تاہم محمد المستنصر کے دور حکومت میں ادریسی علاقے سیاسی لحاظ سے افراتفری کا شکار ہو گئے۔ مراکش میں ادریسی اختیارات بنیادی طور پر صرف شہروں تک ہی محدود تھا۔ محمد کے متعدد بھائیوں کے حامی مختلف شہروں پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ادریسی اپنے بربری دشمنوں کے حملوں کا آسانی سے شکار بن گئے۔ لیکن دسویں صدی میں ایک زیادہ خطرناک اور پر عزم دشمن فاطمیوں کے روپ میں سامنے آیا۔ یحییٰ چہارم کو مہدی عبید اللہ کی ماتحتی تسلیم کرنا پڑی اور 309/921 میں فیزر فاطمی فوج نے قبضہ کر لیا۔ اس موقع کے بعد مراکش کے بیرونی علاقوں میں ادریسیوں کی بہت سی دیگر شاخوں کی حکومت قائم رہی، لیکن ان سلسلوں کی تاریخ بہت ابھام کا شکار ہے۔ جب ہسپانوی امویوں نے اپنے فاطمی دشمنوں کے خلاف مغرب (شمالی افریقہ) کی جانب پیش قدمی کی پالیسی شروع کی اور کیوٹا (Ceuta) پر قبضہ کر لیا تو ریف کے ادریسی خطرہ محسوس کرنے لگے؛ اور 363/974 میں آخری ادریسیوں کو بھی کارڈوبا سے باہر نکال دیا گیا۔ اموی انحطاط کے دور میں کوئی تین چار عشروں کے بعد ادریسی خاندان کی ایک دور کی شاخ یعنی حمودیوں نے Algecira اور ملگاگا کا اختیار سنبھال لیا اور وہاں طائفوں میں سے ایک کے طور پر حکومت کی۔

### 8- رستمی (909-160-296/777)

#### مغربی الجیریا

عبدالرحمان بن رستم	160/296
عبدالوہاب (یا عبدالوارث) بن عبدالرحمان	168/784
ابوسعید افلاح	208/823
ابوبکر بن افلاح	258/872
ابوالیقضان محمد	?
ابوحاتم یوسف، پہلا دور حکومت	281/894
یعقوب بن افلاح	284/894

ابوحاتم یوسف۔ دوسرا دور حکومت

288/901

یقہان بن محمد

294-6/907-9

فاطمی داعی ابو عبداللہ کا تاہرت پر قبضہ

رستی ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ شمالی افریقہ میں اسلام کی تاریخ نہایت غیر متناسب اور ان کے سیاسی اختیارات بہت وسیع ہیں۔ آٹھویں صدی میں شمالی افریقہ کے بربروں کی اکثریت نے اپنے عرب آقاؤں کے غلبے کے خلاف احتجاج کے طور پر خارجیوں کے انقلابی اور قطعی مساوات پر مبنی خیالات اپنالے۔ مشرق میں خارجیت ایک انتہا پسند اور وحشیانہ حد تک ظالم فرقہ تھا، جبکہ مغرب میں یہ عوامی تحریک کی صورت اختیار کرنے کی وجہ سے کافی معتدل تھا۔ عبداللہ بن عباد کے پیروکاروں، عبادیوں کے زلی فرقی خارجیوں کا مرکز شمالی افریقہ میں زیناتا کے بربروں کے درمیان جبل نفوسا تھا۔ مغرب میں عرب طاقت کے مرکز قیروان کے قبضے کے بعد عبادیہ کا ایک گروہ بھاگ کر الجیریا چلا گیا۔ ان کا قائد عبدالرحمان بن رستم تھا جس کا نام فارسی ماخذ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس نے تاہرت کو مرکز بنا کر خارجی حکمرانی قائم کی (144/761)۔ 160/777 میں شمالی افریقہ کے تمام عبادیوں کا امام بن گیا۔ تاہرت کے گروہ مرکز اس نیو کلیس کا تعلق اور لیس کی عبادی آبادی کے ساتھ تھا، اور جنوب میں فیزان تک کے گروہ رستی اماموں کی روحانی قیادت کو تسلیم کرتے تھے۔ اپنے رستی دشمنوں میں گھرے ہوئے مغرب کے شیعہ اور یسویں اور مشرق کے سنی اغلابیوں نے ہسپانوی امویوں کے ساتھ الحاق کی کوشش کی؛ اور رعایتیں حاصل کیں۔ لیکن مراکش میں شیعہ فاطمیوں کی سرفرازی مغرب کی دیگر مقامی سلطنتوں کی طرح رستمیوں کے لیے بھی تباہ کن تھی۔ 296/909 میں تاہرت فاطمی داعی ابو عبداللہ کے کچھ ما بربروں کے ہاتھ لگ گیا؛ بہت سے رستمیوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی ماندہ جنوب میں ورگلا کی جانب بھاگ گئے۔

رستمیوں کے دور میں تاہرت نے صحارا پار سے آنے والے تجارتی کاروانوں کا شمالی پڑاؤ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مالی ترقی پائی، اور اس کا نام چھوٹا عراق پڑ گیا۔ شہری لوگ یہاں آنے لگے، جن میں قابل قدر فارسی اور عیسائی عناصر بھی شامل تھے، اور یہ علم و دانش کا مرکز بن کر ابھرا۔

اس کا عظیم تاریخی کردار سارے شمالی افریقہ اور حتیٰ کہ اس سے پرے بھی خارجیت کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر تھا؛ اگرچہ یہ سیاسی طور پر فاطمیوں کے زیر نگیں آ گیا لیکن مغرب میں عبادی عقائد کافی عرصہ تک مضبوط رہے، اور درحقیقت آج بھی کچھ جگہوں پر موجود ہیں، جیسے الجیریا میں مزاب، تیونس کا جزیرہ جیربا اور جبل نفوسا۔

### 9- اعلیٰ (909-800/296-184)

افریقہ، الجیریا، صقلیہ (سسیلی)

ابراہیم اول بن الاغلب	184/800
عبداللہ اول	197/812
زیادت اللہ اول	201/817
ابو اقبال الاغلب	223/838
محمد اول	226/841
احمد	242/856
زیادت اللہ دوم	249/863
ابوالغرائق محمد دوم	250/863
ابراہیم دوم	261/875
عبداللہ دوم	289/902
زیادت اللہ سوم	290-6/903-9

#### فاطمی فتوحات

ابراہیم بن اغلب کا باپ عباسی فوج میں خراسانی افسر تھا، اور 184/800 میں بیٹے کو ہارون الرشید نے 40,000 ہزار دینار سالانہ کے خراج پر افریقہ (جدید تیونس) کے علاقے دیے۔ اس تفویض میں اسے کافی خود اختیاری کے حقوق بھی ملے اور شمالی افریقہ سے بغداد کے بہت زیادہ دوری نے اس امر کو یقینی بنا دیا کہ خلافت حکومت کسی بھی اعلیٰ کے امور میں زیادہ مداخلت نہیں



کرے گی۔ ابتدائی اعلیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بربری خارجیت کی شورشوں کو کچلا اور اس کے خاندان کے ایک نہایت اہل اور پر جوش فرد زیادۃ اللہ کے ماتحت 217/827 میں سسلی (صقلیہ) کو فتح کرنے کے عظیم منصوبے پر عملدرآمد شروع ہوا۔ ایک وسیع بحری بیڑا تیار کیا گیا جس نے اعلیوں کو مرکزی مدیترانہ (Mediterranean) میں حاکم مطلق بنا دیا اور انھیں اٹلی سارڈینیا، کورسیکا تک پہنچنے کے قابل بنایا؛ اور حتیٰ کہ 255/868 میں مالٹا بھی حاصل کر لیا گیا۔ خیال غالب ہے کہ فرقہ دارانہ اور متعصبانہ توانائیوں کو کافروں کے خلاف جہاد میں لگانے کی غرض سے ہی سسلی کی تسخیر شروع کی گئی تھی، کیونکہ ابتدائی اعلیوں کو افریقیہ میں مالکی فقہاء (یعنی قیروان کے مذہبی رہنماؤں) کی جانب سے زبردست اندرونی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 264/868 تک سسلی کو فتح کرنے کا کام عملاً مکمل ہو چکا تھا اور جزیرے پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ (یاد رہے کہ اختتام پر نارمن فتوحات ہونے تک) پہلے اعلی اور بعد ازاں فاطمی گورنروں کے دور میں یہ عیسائی یورپ میں اسلامی ثقافت کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایک اہم مرکز بن گیا۔ اعلی بڑے پر جوش معمار بھی تھے؛ زیادۃ اللہ اول نے قیروان کے عظیم مسجد کی تعمیر نو کی اور تیونس کے احمدۃ اللہ نے بالخصوص جنوبی افریقیہ کے کم زرخیز علاقوں میں نہریں کھدوائیں۔ تاہم افریقیہ میں اعلیوں کی حیثیت نویں صدی کے اختتام پر رو بہ زوال ہو گئی۔ ابو عبد اللہ کے شیعی پراپیگنڈا نے کچھ ماکے بربروں کو بہت زیادہ متاثر کیا؛ انھوں نے مسلح بغاوت کر دی آخری اعلی زیادۃ اللہ سوم کو 296/909 میں مصر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس نے عباسیوں کی مدد حاصل کرنے کی بار بار کوشش کی مگر ناکام رہا تھا۔

## 10- زیری اور حمادی (1152-547/972-361)

افریقہ اور مشرقی الجیریا

### 1- زیوی

یوسف بلوگین اول بن زیری

361/972

المصور بن بلوگین

373/984

ناصر الدولہ بادیس	386/996
شرف الدولہ الممتز	406/1016
تمیم	454/1062
یحییٰ	501/1108
علی	509/1116
الحسن	513-43/1121-48

نارمن اور اس کے بعد الموہاد فتوحات

## 2-حمادی

حماد بن بلوگین اول بن زیری	405/1015
القائد	419/1028
محسن	446/1054
بلوگین دوم	447/1055
الناصر	454/1062
المصور	481/1088
بادیس	498/1105
العزیز	498/1105
یحییٰ	518-47 یا 515 یا 524-1124 یا 1121

## الموہاد کی فتوحات

زیری مغرب کے وسطی علاقے میں آباد صہاج بربر باشندے تھے، جنہوں نے ابتدا میں فاطمی کا مقصد اختیار کیا اور 334/945 میں فاطمی مرکزی مقام المہدیہ کو اس وقت عسکری امداد مہیا کی جب خارجی باغی ابو یزید نے اسے محاصرے میں لے لیا تھا۔ چنانچہ جب فاطمی خلیفہ المعز مصر سے نکلا بلوگین بن زیری افریقیہ کا گورنر مقرر کیا۔ موخر الذکر نے خانہ بدوش زیناتوں کے ساتھ اپنے لوگوں کی روایتی دشمنی برقرار رکھی اور کیوٹا تک سارے مغرب پر چڑھائی کر دی۔ یہ سارے علاقے

اتنے وسیع تھے کہ اکیلے آدمی کا ان پر حکومت کرنا ممکن نہ تھا، اور بلوگین کے پوتے بادیس کے دور میں ایک انتظامی تقسیم کی گئی: مغربی حصے خاندان کی حمادی شاخ کو دے دیے گئے اور ان مرکزی مقام قلعت بنی حماد قرار پایا، جبکہ مرکزی زیری شاخ نے افریقیہ کو اپنے پاس رکھا جس کا مرکز قیروان ہی رہا۔

افریقہ کے بھرپور قدرتی ذرائع اور دولت نے زیری المعز کو فاطمی آقاؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی تحریص دلائی، اور 433/1041 میں اس نے عباسیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا (تاہم حمادی اس موقع پر فاطمیوں کے ہی وفادار رہے)۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد زیریوں نے ہلال اور سلیم قبائل کے بربری بدوؤں کو زیریوں کے خلاف بھیجا جو زیریوں سے مصر سے ہجرت کر کے مغرب کو چلے گئے۔ یہ عرب آہستہ آہستہ وہی علاقوں میں گئے، شہروں میں دہشت پھیلانی اور زیریوں کو ساحل پر کھڑے المہدیہ کے لیے قیروان خالی کر دینے اور حمادیوں کو نسبتاً کم قابل رسائی ہوگی بندرگاہ کی جانب پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ انھوں نے زمین پر اختیارات سے محروم ہو جانے کے بعد سمندر کا رخ کیا اور ایک بحری بیڑا بنایا۔ درحقیقت یہی وہ دور تھا جب بربری قزاقی کا آغاز ہوا۔ لیکن وہ مسلم سسلی کو نارمنوں کے قبضے میں جانے سے نہ بچا سکے، اگرچہ بعد میں نارمن بادشاہوں کے ساتھ پر امن تجارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ تاہم بارہویں صدی میں زیریوں پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا؛ سسلی کے راجر دوم نے المہدیہ اور تیونس ساحل پر قبضہ کر کے الحسن کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ جلد ہی زیری اور حمادی علاقے الموہاد کے پاس چلے گئے۔

## 11- الموراوی یا المرابطون (1147-1056/541-448)

شمالی افریقہ اور اسپین

صہبانج بربریوں کے	یحییٰ بن ابراہیم	؟
سردار عبداللہ بن یسین	یحییٰ بن عمر	؟
کی روحانی حاکمیت	ابوبکر الامطونی	448-80/1056-73
کو تسلیم کرتے ہیں۔		

یوسف بن تاشفین	453/1061
علی	500/1106
تاشفین	537/1142
ابراہیم	540/1146
اسحاق	540-1/1146-47

### الموہادی فتوحات

الموراوی روحانی رفعت کی ایک لہر میں سے اٹھے جس کا تجربہ مغرب پر بربروں کے غلبے کی تاریخ کے دوران مختلف مواقع کیا گیا۔ یارھویں صدی کے ابتدائی حصے میں صنہاج سردار یحییٰ بن ابراہیم نے حج کیا؛ وہ جوش و جذبہ سے بھر گیا اور واپس آ کر مراکش کے ایک مشہور سکا لرحمد اللہ بن یسین کو اپنے عوام کے درمیان کام کرنے کی دعوت دی۔ دریائے سینگال کے دہانے پر ایک رباط یا قلعہ بنایا گیا اور یہاں سے دینی مجاہدین نے سارے مغربی سوڈان میں اسلام کی ایک نہایت سادہ صورت کی تبلیغ کی۔ ان مجاہدین کو المرابطون کہا جاتا تھا، جس کی ہسپانوی صورت الموراوی ہے۔ فرانسیسی میں متقی آدمی کو *marabout* کہتے ہیں۔ یہ صحرائی بربری اپنے چہروں پر نقاب لیتے، چنانچہ انھیں *المہلسمون*، یعنی نقاب پوش کہا جانے لگا۔ وہ ابوبکر اور اس کے سالار اعظم یوسف بن تاشفین کی قیادت میں مراکش کے خلاف لڑنے شمال کی جانب گئے اور شمالی افریقہ کو الجیریا تک فتح کر لیا۔ اب یوسف نے مراکش کو اپنا دارالحکومت بنایا (454/1062)۔ الموراویوں نے عباسی خلفاء کو اسلام کے روحانی سردار تسلیم کیا اور رجعت پسند مالکی طبقہ فکر کے مطابق چلنے لگے جو مسلم شمالی افریقہ میں غالب تھا۔

اس دور میں مسلم سپین طوائف الملوکی کا شکار اور کلڑے کلڑے تھا۔ اور اب عیسائیوں کی دوبارہ تسخیر شروع ہو رہی تھی۔ یہ واضح ہو گیا کہ صرف موراویوں کی ابھرتی ہوئی طاقت ہی وہاں کے چھوٹے چھوٹے اور نفاق زدہ بادشاہوں کو بچا سکتی تھی۔ یوسف بن تاشفین افریقہ سے سمندر پار کر کے گیا اور 479/1086 میں لیوں اور کاستیلے کے الفونسو ششم اور کے خلاف زبردست کامیابی حاصل کی اور لیکن بعد میں مزید پیش رفت نہ کر سکا، اور تولید عیسائیوں کے قبضے میں ہی رہا۔



اگلے چند برسوں میں یوسف نے تقریباً سبھی طائفوں کو بادیا اور صرف ساراگوسا میں ہودیوں کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بارہویں صدی کے ابتدائی برسوں میں مغرب میں الموراوی حیثیت کو وہاں ایک نئی قوت، الموہاد کے فروغ سے خطرہ لاحق ہو گیا؛ پیچھے سے اسی دباؤ کی وجہ سے الموراوی عیسائیوں سے 512/1118 میں ساراگوسا نہ چھین سکے۔ 541/1147 میں مراکش میں آخری الموراوی حکمران اسحاق کو قتل کر دیا گیا اور الموہاد نے سپین کو پار کرنا شروع کیا۔ سپین میں آخری گورنر یحییٰ بن گھانیہ، جس کا خاندان شادیوں کے وسیلہ سے الموراویوں کا رشتہ دار تھا، 543/1148 میں فوت ہوا تو ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، لیکن الموراویوں کے بعد کی بنو گھانیہ نسل 509/1115 میں مجور کا کی فتح سے لے کر 625/1286 میں آراگونی تخیر تک وہیں رہی۔

## 12- الموہاد یا الموحدون (524-667/1130-1269)

شمالی افریقہ اور سپین

محمد بن تومرت، وفات: 524/1130

عبدالمومن	524/1130
ابو یعقوب یوسف اول	558/1163
ابو یوسف یعقوب المنصور	580/1184
محمد الناصر	595/1199
ابو یعقوب یوسف دوم المستعصر	611/1214
عبدالواحد اول المکملوع / الخلووع	620/1224
ابو محمد عبداللہ العادل	621/1224
یحییٰ المعتصم	624/1227
ابوالاعلیٰ ادریس المامون	626/1229
ابو محمد عبدالواحد دوم الرشید	630/1232
ابوالحسن علی السعید المعتهد	640/1242

ابوالحفص عمر المرثقی

646/1248

ابوالاولی الوائق

665-7/1266-9

ماسوائے غرناطہ سارے سپین پر عیسائیوں کا غلبہ؛ شمالی افریقی زمینیں عبدالواحدیوں، حفصیوں اور مرینیوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں الموحد یا الموہاد (جس کا مادہ الموحدین یعنی خدا پر کامل یقین رکھنے والے ہے) عقلی اعتبار سے شمالی افریقہ پر غالب رجعت پسند اور نہایت روایت پرست مسلمانوں کے خلاف ایک قسم کا احتجاج تھا۔ ان کے بانی برابر ابن تو مرت مشرق میں تعلیم حاصل کی اور رہبانہ و اصلاحی نظریات اپنالے۔ مراکش کے مسمودا بربر سرداروں کی جانب سے اظہار عقیدت وصول کرنے کے بعد اس نے تحریک کی قیادت خود سنبھال لی، اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا سپہ سالار عبدالمومن تھا، جسے بعد میں ابن تو مرت کا خلیفہ یعنی نائب کہا جانے لگا۔ الموہاد نے آہستہ آہستہ مراکش پر قبضہ کرنا شروع کیا اور مراکش کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سین میں المورادیوں کے زوال کے بعد سے ہی اقتدار کا خلا موجود تھا، جس میں طائفوں جیسے گذشتہ صدی کے کچھ مقامی گروہ دوبارہ نمودار ہوئے (مثلاً ویلنسیا، کارڈوبا اور میوریشیا میں؛ اس کے بعد 540/1145 میں عبدالمومن نے ایک فوج کو سین کی جانب بھیجا اور جلد ہی وہاں کے سارے مسلم علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ایک طاقتور الموہاد سلطنت، جس کا دارالحکومت سیوٹلی میں تھا، تشکیل دی گئی؛ عبدالمومن نے تیونس اور تریپولی تک کا علاقہ فتح کر لیا، اور صلاح الدین ایوبی نے فرائقوں کے خلاف اس سے اتحاد اور مدد کی درخواست کی۔ الموہاد ریاست کا ڈھانچہ ابن تو مرت کی اصل تعلیمات کی مسیحائی اور حاکمیت پسندانہ نوعیت کا عکاس تھا، اور سارا تانا بانا خلیفہ کے مشیروں اور اقربا پر ہی مشتمل تھا۔ دربارتوں لطیفہ اور علم کا ایک عالیشان مرکز تھا، اور سب سے بڑھ کر یہاں ابن طفیل اور ابن رشد جیسے عقلیت پسندوں نے اسلامی فلسفہ کو فروغ دیا۔ یہ دونوں ہی الموہاد سلاطین کے درباری طبیب کے طور پر فرائض سرانجام دیتے رہے۔

تاہم سلاطین عیسائیوں کی پیش قدمی کو مستقل طور پر نہ روک سکے۔ 591/1195 میں الارکوس کی تسخیر کے اثرات دیرپا نہ تھے، اور 609/1212 میں جزیرہ نما کے عیسائی بادشاہوں

کے اتحاد کے ہاتھوں Las Navas de Tolosa کی خوفناک شکست کے نتیجے میں الموباد کو سپین میں سے اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑا۔ آخری سلاطین کی حکومت صرف شمالی افریقہ میں ہی تھی، لیکن وہاں بھی ان کی گرفت ڈھیلی پڑنا شروع ہو گئی۔ Tlemcen میں 633/1236 میں یغمراسن بن زیان کی سرفرازی کے باعث وہاں خود مختار عبدالولید سلطنت قائم ہوئی؛ اور اگلے ہی برس افریقیہ کے گورنر ابوزکریا یحییٰ نے تیونس میں خود مختاری کو دعویٰ کر کے حصیوں کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انجام کار الموباد کا دار الحکومت مراکش بھی 667/1269 میں مرینیوں کے ہاتھ لگ گیا۔

### 13- مرینی اور وٹاسی (592-956/1196-1549)

#### مراکش

#### 1- مرینیوں کی نسل

ابومحمد عبدالحق اول	592/1196
عثمان اول	614/1217
محمد اول	637/1240
ابویحییٰ ابوبکر	642/1244
ابویوسف یعقوب	656/1258
ابویعقوب یوسف	685/1286
ابوثابت عامر	706/1307
ابوالریح سلیمان	708/1308
ابوسعید عثمان دوم	710/1310
ابوالحسن علی اول	732/1331
ابوعنان فارس	749/1348
محمد دوم السعید	759/1359

ابوسالم علی دوم	760/1359	
ابوعمر تاشفین	762/1361	
عبدالعلیم، پہلی مرتبہ فیزا اور پھر جلماس میں	763/1361	
ابوزین محمد سوم	763/1362	
ابوالقارس عبدالعزیز اول	768/1366	
ابوزین محمد چہارم	774/1372	
ابوالعباس احمد، پہلا دور حکومت	776/1374	
موسیٰ	786/1384	
ابوزین محمد پنجم	788/1386	
محمد ششم	788/1386	
ابوالعباس احمد، دوسرا دور حکومت	789/1387	
ابوالقارس	796/1393	
عبدالعزیز دوم	799/1397	
عبداللہ	800/1398	
ابوسعید عثمان سوم	801/1399	
زینیوں یا عبدالواوی آف Tlemcen	823-31/1420-8	
ابوالملک عبدالواحد کا اتحاد		
ابومحمد عبدالحق دوم	831-69/1428-65	
<b>2- وٹاسیوں کی نسل</b>		
مرعی عبدالحق	ابو ذکریا بیگی	831/1428
دوم کے	علی	852/1448
گورز	محمد اول الشیخ	863/1459
	محمد دوم البرتقالی	875/1470



احمد، پہلا دور حکومت

931/1525

محمد سوم القسری

952/1545

احمد، دوسرا دور حکومت

954-6/1547-9

سعدی شریفی

مرینی اپنے علاقوں کو تیونس کے حصیوں کے ساتھ بانٹ کر الموہاد کے ورثے کو مراکش اور وسطی مغرب میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ بنومرین خانہ بدوش زینا تا بربروں کا ایک قبیلہ تھے؛ ان کا تہذیبی درجہ غالباً کمتر تھا، اور وہ حصول اقتدار کی خاطر کسی بھی مذہبی جوش و جذبے سے تحریک یافتہ نہ تھے، جیسا کہ الموراویوں اور الموہاد کے معاملے میں تھا۔ یہی حقائق آخری موہاد حکمرانوں کے ساتھ ان کی لڑائی پر دلیل ہیں۔ پہلے انھوں نے 613/1216 میں صحارا کے راستے مراکش پر حملہ کیا، لیکن الموہاد ابو سعید نے راہ رو کی اور وہ 669/1269 تک مراکش حاصل نہ کر سکے۔ سبھی اس کے بھی چار برس بعد فتح ہوا۔

مرینیوں نے اپنا مرکز فیز میں قائم کر کے الموہاد کے وارث ہونے کا قوی احساس حاصل کر لیا، اور مغرب میں ان کی سلطنت کی تعمیر نو کرنے کی کوشش کی۔ وہ جذبہ جہاد سے بھی سرشار تھے اور سین کو دوبارہ فتح کرنے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ دراصل ان کے دور میں مذہبی جوش و خروش کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ متعدد مرینی سلاطین خود سین میں جا کر لڑے۔ ابو یعقوب یوسف غرناطہ کے ناصر یوں کی پکار پر وہاں گیا اور 674/1275 میں Eciija کی لڑائی جیتی۔ 709/1309 میں جبل الطارق پر ہسپانوی قبضے کے بعد مرینی فوجیں دوبارہ سین میں ظاہر ہوئیں، لیکن ابوالحسن علی نے ریوسالادو کے مقام پر 741/1340 میں کاسٹیل کے الفونسو یازدہم اور پرتگال کے الفونسو چہارم سے شکست کھائی اور اس کے بعد پھر کبھی مرینیوں کو سین میں مداخلت کا موقع نہ مل سکا۔ شمالی افریقہ میں مرینیوں نے اپنے پڑوسیوں Tlemcen کے الولیدیوں کو تہ تیغ کیا، 737/1337 میں ان کے دارالحکومت پر قبضہ کیا اور لیکن وہ حصیوں کو تیونس سے نکالنے کے قابل نہ تھے۔

چودھویں صدی کے اختتام کے قریب مرینیوں کا زوال بدیہی طور پر نظر آنے لگا۔

803/1415 میں کاسٹیلے کے ہنری سوم نے تیوآن پر حملہ کیا اور 818/1415 میں پرتگیزیوں نے کیوٹا (Ceuta) لے لیا۔ اس عیسائی جارحیت پسندی نے مغرب میں مذہبی جذبات کی ایک لہر ابھاری اور کافروں کے خلاف جہاد کی پکاریں بلند ہونے لگیں۔ اس رد عمل نے (مرینیوں کی ہی ایک شاخ) بنو وٹاس کو اقتدار سنبھالنے میں مدد دی۔ بنو وٹاس عہد سلاطین میں ہی اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ ابو ذکریا یحییٰ نے ابتدا میں نوجوان مرینی عبدالحق دوم کے باجگزار کے طور پر حکومت کی، اور پرتگیزیوں سے نمٹنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ عبدالحق نے 862/1458 میں براہ راست حکومت کرنے کی کوشش کی لیکن اسے عرصہ سات سال بعد قتل کر دیا گیا۔ وٹاسی محمد اول الشیخ نے 877/1472 میں فیز کے مقام پر سلطان ہونے کا اعلان کیا اور ادور لیبی شرقاً کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بعد کے وٹاسی سعدی شریف کی بڑھتی ہوئی طاقت کے آگے بند باندھنے کے قابل نہ ہو سکے جس نے آخر کار 956/1549 میں فیز پر قبضہ کر لیا؛ وٹاسیوں نے عثمانی ترکوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

#### 14- حفصی (625-982/1228-1574)

تیونس اور مشرقی الجیریا

ابو ذکریا یحییٰ اول	625/1228
ابو عبد اللہ محمد اول المنصر	647/1249
ابو ذکریا یحییٰ دوم الواثق	675/1277
ابو اسحاق ابراہیم اول	678/1279
احمد بن ابی عمارہ کی شورش انگیزی	681/1282
ابو حفص عمر اول (تیونس میں)	683/1284
ابو ذکریا یحییٰ سوم الملتخب (بوگی اور قسطنطنیہ میں)	684/1285
(689/1299 تک)	

ابوعبداللہ (یا ابو عسیدہ)	694/1295
محمد دوم المستنصر	
ابویحییٰ ابوبکر اول الشہید	709/1309
ابوالبقا خالد اول الناصر	709/1309
ابویحییٰ ذکریا اول الحیانی (تیونس میں)	711/1311
ابومحمد ضرب سوم المستنصر الحیانی (تیونس میں)	717/1317
ابویحییٰ ابوبکر دوم المتوکل	718/1318
ابوحفص عمر دوم	747/1346
تیونس پر پہلا مرینی قبضہ	748/1348
ابوالعباس احمد الفضل المتوکل (تیونس میں)	750/1349
ابواسحاق ابراہیم دوم المستنصر، پہلا دور حکومت	750/1350
تیونس پر دوسرا مرینی قبضہ	758/1357
ابواسحاق ابراہیم دوم، دوسرا دور حکومت (تیونس	
میں 770/1369 تک؛ بوگی اور قسطنطنیہ	758/1357
میں دیگر حفصی بادشاہ)	
ابوالبقا خالد دوم (تیونس میں)	770/1369
ابوالعباس احمد دوم المستنصر (پہلے بوگی اور پھر	772/1370
قسطنطنیہ میں)	
ابوفارس عبدالعزیز المتوکل	796/1394
ابوعبداللہ محمد چہارم المستنصر	837/1434
ابوعمر عثمان	839/1435
ابو ذکریا یحییٰ چہارم	893/1488
عبدالؤمن	894/1489

ابو یحییٰ ذکریا دوم	895/1490
ابو عبد اللہ محمد پنجم المتوکل	899/1494
ابو عبد اللہ محمد الحسن، پہلا دور حکومت	932/1526
خیر الدین بارباروسا کے ہاتھوں تیونس پر پہلا ترکی قبضہ	941/1534
الحسن، دوسرا دور حکومت (شہنشاہ چارلس پنجم کے ہاجگزار کے طور پر)	942/1535

احمد سوم	950/1543
علون جعلی کے ہاتھوں تیونس کی دوسری مرتبہ فتح	977/1569
ابو عبد اللہ محمد ششم (سپین کے ہاجگزار کے طور پر)	981/1573
سنان پاشا کے ہاتھوں تیونس کی تیسری اور حتمی تسخیر	982/1574

افریقہ میں قرون وسطیٰ کے اواخر کی تاریخ میں اہم ترین سلطنت حفصی کا نام شیخ ابوالحفص عمر (وفات 571/1176) کے ساتھ منسوب ہے۔ جو الموہاد تحریک کے بانی اور عبدالمومن کے سپہ سالاروں میں سے ایک ابن تومرت کا شاگرد تھا۔ اس کی اولاد الموہاد عہد میں افریقہ کی گورنری کے علاوہ دیگر بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہی۔ ان حفصی گورنروں میں سے ایک ابوزکریا یحییٰ اول نے 634/1237 میں الموہادی خلیفہ عبدالولید کا تخت الٹا دیا اور اسے اجتہادی بدعتوں کا مورد الزام ٹھہرایا۔ اب اس نے مغرب کی جانب وسطی مغرب میں توسیع اختیار کرتے ہوئے قسطنطین، بوگی اور الجیریا حاصل کیا، Tlemcen کے الولیدیوں کو اپنا ہاجگزار بنایا اور مرینیوں کو خود کو تسلیم کرنے پر مجبور کر کے جنوبی اسپین کے مسلمانوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں وصول کیں۔ اس کے بیٹے المستنصر کے عہد میں بھی حفصی طاقت اتنی ہی زبردست رہی، جس نے فرانس کے لوئی نہم اور انجو کے چارلس کے حملے کی مدافعت کی (668/1270) اور خلیفہ اور امیر المومنین کے القابات اختیار کر لیے۔ وہ بغداد کے عباسیوں کا وارث ہونے کا دعویدار تھا۔ اسے یہ القابات مکہ کے شریف نے دیے۔

المستنصر کی وفات کے بعد ڈیڑھ صدی حفصی اقتدار اور استحکام میں زبردست اتار چڑھاؤ کا

شکار رہی۔ کمزوری کے ادوار میں وسطی مغرب اور جنوبی افریقہ کے شہروں میں حفصی سلطنت کا تختہ الٹنے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ بعض اوقات حفصی تخت کے متعدد عویدار پیدا ہو گئے۔ سولہویں صدی میں سلطنت کا زوال واضح ہو گیا، ان کی حاکمیت عموماً صرف خطہ تیونس تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ الجیریا اور دیگر بندرگاہوں میں ترک تسلط اور بغاوتوں کو کنٹرول کرنے میں حفصیوں کی نااہلی نے عیسائیوں کو حملہ کرنے کی دعوت دی۔ شہنشاہ چارلس پنجم نے 941/1535 میں تیونس میں ایک ہسپانوی گیریشن تعینات کر دی۔ آخری حفصیوں کو ترکوں کے خلاف ہسپانویوں کی مدد سے تھوڑی بہت حاکمیت ملی رہی، لیکن 981/1574 میں انجام کار سنان پاشا نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور آخری حفصی کو قیدی بنا کر استنبول لے گیا۔

حفصیوں کے عہد میں تیونس نے بڑی مادی خوشحالی دیکھی۔ بربریوں کی دخل اندازی اور گڑبڑ سے پہلے حفصیوں نے اطالوی اور جنوبی فرانسیسی شہروں کے علاوہ آراگون کے ساتھ بھی مضبوط تجارتی معاہدے کر لیے تھے۔ سرزمین کو ہسپانوی مسلمان پناہ گزینوں سے بھی فائدہ ہوا (جن میں مورخ ابن خلدون کے آباؤ اجداد بھی شامل تھے)۔ تیونس ایک عظیم فنی اور عقلی مرکز بن گیا، اور یہ حفصی ہی تھے جنہوں نے تیرہویں صدی میں تعلیم کا نظام مدرسہ متعارف کروایا جو پہلے صرف مشرقی ممالک میں ہی معلوم تھا۔

## 15- مراکش کے شریف (1511- 917)

### 1- سعدی

محمد المہدی القائم بن امر اللہ (سوس میں)	917/1511
احمد العرج (مراکش میں 947/1540 تک)	923/1517
محمد الشیخ المہدی بن محمد المہدی (پہلے سوس اور پھر فیز میں)	923/1517
عبد اللہ الغالب	964/1557
محمد التوکل المسلموخ	981/1574

عبدالملک بن محمد الشیخ المہدی	983/1576
احمد المصور	986/1578
محمد الشیخ المامون	1012-17/1603-8
عبداللہ الواثق (مراکش میں)	1012-17/1603-8
زیدان الناصر (پہلے صرف فیز میں)	1012-39/1603-28
عبدالملک بن زیدان	1034/1623
الولید	1042/1631
محمد الاصغر	1045/1636
احمد العباس	1064-9/1654-9
<b>2- فلالی</b>	
محمد اول الشریف (تافیلالت میں)	1041/1631
محمد دوم بن محمد	1045/1635
الرشید	1075/1664
اسماعیل الثمین	1082/1672
احمد الذہابی	1139/1727
عبداللہ	1141/1729
عبداللہ کو بہت سی شورشوں اور بغاوتوں کا	
سامنا کرنا پڑتا ہے	1147-58/1735-45
محمد سوم بن عبداللہ	1171/1757
یزید	1204/1790
ہشام	1206/1792
سلیمان	1207/1793
عبدالرحمان	1238/1822



محمد چہارم بن عبدالرحمان	1276/1859
الحسن اول بن محمد	1290/1873
عبدالعزیز	1312/1895
الحافظ	1325/1907
یوسف	1330/1912
محمد پنجم بن یوسف، پہلا دور حکومت	1345/1927
محمد بن عرفہ	1372/1953
محمد پنجم، دوسرا دور حکومت	1375/1955
الحسن دوم بن محمد	1381- /1962-

قرون وسطیٰ کے بعد سے مراکش کے شرقاً نے ملک کی تاریخ میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ مغرب نے اکثر مسیحائی یا کرشاتی شخصیات کو قبولیت دی اور وہاں اسلام کی کچھ نہایت سحر انگیز شخصیات کو خاص مفہوم میں احترام دیا جانے لگا۔ میرابوطی (maraboutism)۔ میرابوطی شمالی افریقہ میں مسلمان بزرگوں کا ایک طبقہ تھا جن کی اولیاء کی طرح عزت کی جاتی تھی) سماج میں شرقاً کا اعلیٰ رتبہ مراکشی اسلام میں مخصوص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اٹلانٹک کے ساحلوں اور چین و پرنگال کا ہمسایہ مراکش عیسائی حملوں کی زد پہ تھا اور مسلمانوں نے کافی شدت کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا۔

شریف عمومی طور پر حضرت محمد ﷺ کی اولاد ہیں، لیکن مراکش میں شرقاً کے زیادہ تر نسلی سلسلے حسن بن علیؑ کے ساتھ اپنا نسب جوڑتے ہیں، اور بالخصوص سعدیوں اور فلائیوں نے حضرت امام حسنؑ کے پوتے محمد انفس الزکریا (145/762) کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑا۔ پیچھے مذکور اور ایسی مراکش میں اقتدار حاصل کرنے والے شریفوں کا پہلا سلسلہ تھے، لیکن بعد کی صدیوں میں متعدد بربر سلطنتیں وہاں غالب رہیں۔ تاہم شرقاً کو موقع سولہویں صدی میں ملا جب فیر میں وطاسی اقتدار واضح طور پر ڈولنے لگا تھا۔ جنوبی مراکش کے خطہ سوس میں اپنی بنیاد قائم کر کے شرقاً کی صدی نسل..... جو چودھویں صدی کے نصف آخر میں مریبیہ سے وہاں آئے تھے..... نے آہستہ

آہستہ شمال کی جانب اپنی طاقت میں توسیع کی اور وٹاسیوں کو 956/1549 میں فیز سے نکال باہر کیا۔ اس نسل کی خوش بختیوں کے بانی کا پورا نام اور خطابات یعنی محمد المہدی القائم بہ امر اللہ، سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعدیوں نے کس طرح مسیحائی توقعات اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کی مذہبی تجلیل کو استعمال کیا۔ اب ان کی حاکمیت تقریباً سارے مراکش پر قائم ہو گئی تھی اور بلاوا لبحزن (وہ ایریا جہاں حکومت کا حکم چلتا تھا اور جہاں فوج تیار کی جاتی تھی، یعنی قلمرو) اپنی اچھا کو پہنچ گیا۔ الجیریا کے ترک اور ساحلی علاقوں کے پرتگیزیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اور احمد المصوور نے ٹمبکٹو پر قبضہ کر کے گاؤ (موجودہ مالی) کی افریقی سلطنت تباہ کر دی، اور یوں حاکمیت کی حدود سینگال سے لے کر بورنو تک پہنچ گئیں۔ اب شرقاً کی سماجی اور معاشی مراعات مزید مستحکم ہوئیں ہر نئے تخت نشین ہونے والے سلطان نے ان کی توثیق کی۔

تاہم سترھویں صدی میں سلطنت کے اتحاد میں اس وقت دراڑ پڑی جب خود مختاری کی تحریکیں مراکش کے مختلف علاقوں میں اٹھیں اور 1069/1659 تک آخری سعدی انگریز اور ڈچ مدد کے باوجود غائب ہو گئے۔ مشرقی مراکش میں تانیلات کے فلاہی شرقاً نے مراکش کو پوری طرح منتشر ہونے سے بچایا، جن کے رہنماؤں مولائے الرشید اور مولائے اسماعیل نے ساری سرزمین میں شریفی حاکمیت بحال کی اور بہت بڑی فوج تیار کی جس میں کالے غلام بھی شامل تھے۔ اٹھارہویں صدی میں پرتگیزیوں کا آخری ٹھکانہ بھی ختم کر دیا گیا اور شمال یورپی طاقتوں کے ساتھ تجارتی معاہدے ہوئے؛ مگر اٹھارہویں صدی میں مراکش میں کسی بھی بیرونی مداخلت کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ بائیں ہمہ، اس عہد کے دوران داخلی امن و امان بہتر ہوا اور مراکش نے فرانسیسیوں (1260/1844) اور ہسپانویوں (1277/1859-60) کے خلاف دو جہاد کن جنگیں لڑیں۔ 1330/1912 میں فرانس کی جانب سے اعلان کردہ ریاستی حدود نے مراکش کو طوائف الملوکی اور یورپی طاقتوں کے ہاتھوں کلڑے کلڑے ہونے سے بچالیا، البتہ سلطان کے ایما پر فرانسیسیوں کو ملک کو فتح کرنے میں تقریباً بیس برس لگ گئے۔ آخر کار 1375/1956 میں مراکش نے اپنی سرپرستی کو مسترد کیا اور ایک مرتبہ پھر خود مختار بن گیا..... فلاہی بدستور مقتدر رہے۔

## 16- سنوسیہ (1837- / 1293-)

## لیبیا

سید محمد بن علی السنوسی الکبیر، سنوسی سلسلے کا بانی	1253\1837
سید المہدی	1276/1859
سید احمد الشریف (1336/1918، اپنی سیاسی اور عسکری قیادت چھوڑ دی لیکن 1351 1933/ تک روحانی اولیت قائم رکھی۔	1320/1902
سید محمد اور لیس (ابتداء میں بطور عسکری اور سیاسی رہنما؛ 1371/1951 میں لیبیا کا شاہ اور لیس بنا)	1336- / 1918-

محمد بن علی (المشہور سنوسی الکبیر) اٹھارہویں صدی کے اختتام پر الجیریا میں پیدا ہوا۔ فیر میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ مراکش کے درویشوں یا صوفیوں سے متاثر ہوا، بالخصوص تجانیہ سلسلہ کے صوفیوں سے، اور بعد میں حجاز میں مزید تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ خود بھی ایک درویش سلسلے میں شامل ہو گیا۔ تصوف کے جانب اپنے رجحانات کے علاوہ اس نے اصلاحی اور اجتماعی خیالات بھی اپنائے، اور مکہ میں اپنا طریقہ یا سلسلہ سنوسیہ قائم کیا (1253/1837)۔ اپنے ملک الجیریا میں فرانسیسیوں کا قبضہ ہونے کا عمل جاری دیکھ کر وہ سائرییکا (Cyrenaica) میں ہی قیام پذیر ہو گیا۔ وہاں متعدد زاوئے (سنوسیوں کے لیے مذہبی اور تعلیمی مدرسے) قائم کئے، بشمول 1272/1586 میں مصری سرحد کے قریب ہنوب والے زاویہ کے؛ یہ زاویہ 1313/1895 تک ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا رہا۔ سنوسی پیغام میں شمالی افریقہ اور سوڈان کے صحرا نوردوں سے اپیل کی گئی۔ ان علاقوں میں مقدس افراد کی پرستش کی روایت نے سنوسی الکبیر کی ذات کے لیے احترام واجب قرار دیا لیکن سلسلے کی معیاری تنظیم نے ان جذبات کو پائیدار اور بامقصد صورت دے دی۔ اسلام کو دوبارہ سرفراز کرنے کے لیے ایک مہدی کا انتظار بھی کافی عرصہ سے ہو رہا تھا، جیسا کہ اٹھارہویں صدی کی آٹھویں اور نویں دہائی میں ڈونگولا میں مہدیہ تحریک کے واقعات سے اشارہ ملتا ہے۔ سنوسیوں کو مسلمانوں کے اتحاد کو کی امید تھی، اور عثمانی سلطان

عبدالحمید دوم کو پان اسلامی صلیبی کے طور پر ان سے مدد ملنے کے توقع تھی۔ درحقیقت سنوسی ان کے نظریات کے پر جوش مبلغ تھے، اور حجاز، مصر، فیزان اور حتیٰ کہ جنوب میں جمیل چاڈ تک کے علاقوں میں زاویے قائم کیے گئے۔ اس طرح عقیدہ ماورائے صحارا کا روان راستوں تک چلا گیا۔

وسطی سوڈان میں فرانسیسی پیش قدمی کی مدافعت کرنے والے مسلمانوں میں سنوسی سب سے آگے تھے، اور انھوں نے کوئی تیس برس تک لیبیا (بالخصوص سائرینیکا) میں حملہ آور اطالویوں کی مدافعت میں روحانی اور عسکری قوائیت فراہم کرنا تھی۔ 1915 میں اتحادیوں کی جانب سے پہلی عالمی جنگ میں اٹلی کی شمولیت نے سنوسیوں کو ناگزیر طور پر ترکوں کی جانب مائل کیا، اور سلسلے کے قائد سید احمد نے 1918 تک سائرینیکا میں اپنا قبضہ قائم رکھا اور اس کے بعد استنبول چلا گیا؛ اس کے جانے کے بعد سائرینیکا میں مسلم عزم کی عسکری سمت کا انحصار زیادہ تر مقامی سنوسی رہنماؤں پر ہی ہو گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانوی حکومت نے محمد ادریس، جو بیس سال سے مصر میں جلا وطن تھا، کو سائرینیکا کے سنوسیوں کا نہ صرف روحانی سردار بلکہ امیر اور عسکری رہنما بھی تسلیم کر لیا۔ 1371/1951 میں وہ متحدہ سلطنت لیبیا کا بادشاہ بنا جس میں سائرینیکا، تریپولیتانیا اور فیزان شامل تھے؛ 1382/1963 میں یہ بادشاہت ایک مستحکم ریاست بن گئی۔ چنانچہ جدید عرب ریاست کی قیادت کے لیے ایک مذہبی تحریک کے سربراہوں کے طور پر سنوسی خاندان کی ترقی کا عمل ایک لحاظ سے سعودی عرب کے وہابیہ اور السعودی کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔

## زرخیز ہلال: مصر، شام اور عراق 17- طولونی (254-92/868-905)

مصر اور سیریا (شام)

احمد بن طولون	254/868
خرمارویہ	270/884
جیش	282/896
ہارون	283/896
شیبان	292/905

خلافتی جرنیل محمد بن سلیمان کے ہاتھوں فتح

طولونی مصر اور شام (سیریا) کی اس پہلی مقامی سلطنت کی نمائندگی کرتے ہیں جس نے بغداد سے خود مختاری حاصل کی۔ احمد بن طولون (مطلب چاند) ایک ترک سپاہی تھا جس کے باپ کو نویں صدی کے آغاز میں جزیہ میں بخارا بھیجا گیا تھا۔ پہلے احمد عباسی گورنر کے نائب کی حیثیت میں مصر آیا، لیکن بعد میں بذات خود گورنری حاصل کر لی اور اپنی طاقت کو فلسطین اور شام تک بھی وسیع کر لیا۔ اس کی اولوالعزمی کو خلیفہ مامون کے بھائی موفق..... خلیفہ المعتمد کا بھائی اور خلافت میں اصل حکمران..... کی زیریں عراق کے زنج باغیوں کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے بھی معاونت ملی۔ احمد کے بیٹے خمارویہ کے دور میں طولونوں کی قسمت کا ستارہ بدستور عروج پر رہا۔ نئے خلیفہ المعتمد نے 279/892 میں اقتدار سنبھالنے پر خمارویہ اور اس کے ورثا کو سالانہ تین لاکھ خراج کے عوض تیس برس کے لیے مصر، شام (تارس پہاڑوں تک) اور الجزیرہ (یعنی شمالی میسو پوٹیمیا) دے دیا۔ بعد میں معاہدے میں ترمیم کر کے اسے طولونی کے لیے کم قابل قبول بنا دیا گیا، لیکن 282/896 میں خمارویہ کی موت سے پہلے تک سلطنت کا تانا بانا قائم رہا، لیکن اس کے بعد خمارویہ کی بے پناہ

زیادتیوں کی وجہ سے اب اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ شامی صحرا کے قرامطی مذہبی فرقہ پرستوں کو قابو میں رکھنے میں طولونیوں کی نااہلی کے باعث خلیفہ کو ایک فوج بھیجنا پڑی جس نے شام کو فتح کیا اور اس کے بعد طولونی صدر مقام یعنی پرانا قاہرہ قبضے میں کر لیا، اور خاندان کے باقی ماندہ ارکان کو بغداد لیجایا گیا۔

مصری مورخین کی نظر میں طولونیوں کا عہد سنہری دور تھا۔ احمد نے بہت بڑی غلام فوج کے بل بوتے پر اقتدار قائم رکھا۔ اس فوج میں ترکوں، یونانیوں اور کالے نیویوں کی اکثریت تھی، لیکن حکومتی بدعنوانیوں کو ختم کر کے مصریوں پر بعد ازاں پیش آنے والا مالیاتی بوجھ کم کیا گیا۔ صرف ایک شمارویہ کے عہد میں ہی فوج کے درمیان انتظامی گڑبڑ اور سرکشی دیکھنے میں آئی۔ چونکہ شام کو مصر سے براستہ سمندر قبضے میں رکھنا بہترین تھا اس لیے احمد نے ایک مضبوط بحری بیڑا بھی بنایا۔ اس نے اپنے دارالحکومت پرانے قاہرہ میں بہت سی تعمیرات کیں، وہاں عسکری ہیڈ کوارٹر القطاعی قائم کیا اور عمرو بن العاص کی مسجد میں جگہ تنگ پڑنے کے باعث نماز سے محروم رہ جانے والے فوجیوں کے لیے اپنی مشہور مسجد تعمیر کی۔

### 18- اشیدی (323-58/935-69)

مصر اور شام	
محمد بن طغج الاشی	323/935
اڈو جور (اوی غور)	334/946
علی	349/961
کافور، اصل میں علی کا گورنر تھا	355/966
احمد	357-8/968-9

فاطمی سپہ سالار جوہر کی فتح مصر

محمد بن طغج کا تعلق ایک ترک فوجی گھرانے سے تھا جو عباسی عہد میں دو پشتوں تک خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ اسے 323/935 میں مصر کا گورنر تعینات کیا گیا اور خلیفہ الرازی نے اسے



انہید کا خطاب دیا۔ اس خطاب کے لفظی مطلب کے بارے میں عرب حوالے اتنے واضح نہیں، لیکن لگتا ہے کہ محمد بن طغج جانتا تھا کہ یہ اس کے آباؤ اجداد کے وسطی ایشیائی وطن میں ایک پروقار خطاب تھا۔ (یہ درحقیقت ایک ایرانی خطاب ہے جس کا مطلب بادشاہ یا حکمران ہے۔ سوگڈیا اور فرغانہ کے ایرانی حکمرانوں نے بھی یہ خطاب اختیار کیا۔) محمد بن طغج نے خلیفہ کے امیر الامراء محمد بن رافع کے خلاف اپنا دفاع کیا اور شام میں حمدانیوں کی مخالفت کے باوجود دمشق پر قبضہ قائم رکھا۔ تاہم اس کے دو بیٹوں کی حیثیت کٹھ پتلیوں جیسی تھی اور اصل طاقت اس کے نیویائی غلام کافور کے پاس رہی جسے اس نے اپنی موت سے ذرا پہلے اپنے بیٹوں کا نائب السلطنت مقرر کیا تھا۔ 355/966 میں علی کی وفات پر کافور اقتدار کا مکمل مالک بن گیا۔ اس بات کا سہرا کافور کے سر ہی بندھتا ہے کہ اس نے نیویائی ساحل کے ساتھ ساتھ فاطمیوں کی پیش قدمی کو روکا حمادیوں کو شمالی افریقہ میں ہی محدود رکھا؛ 357/968 میں اس کی وفات کے بعد ہی محمد بن طغج کے ایک کمزور اور ہوس پرست پوتے کو اقتدار ملا اور وہ جلد ہی فاطمی حملے کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ کافور کو ادب اور فنون لطیفہ کا لبرل سرپرست خیال کیا جاتا ہے، اور شاعر المہتمی نے اسی کے دربار میں کچھ وقت گزارا تھا۔

### 19- فاطمی (1171-909/567-297)

شمالی افریقہ اور اس کے بعد مصر اور شام

داعی ابو عبداللہ الشیعی نے اس کے شروع کیے ہونے کاموں کو

298/910 میں پایہ تکمیل کو پہنچایا

عبید اللہ المہدی	297/907
القائم	322/934
المصور	334/946
المتو	341/953
العزیز	365/975

الحاکم	386/996
الظاہر	411/1021
المستنصر	427/1036
المستعلیٰ	487/1094
العامر	495/1101
وقفہ: الحافظ کی بطور گورنر حکومت، لیکن ابھی بطور خلیفہ نہیں۔	524/1130
الحافظ	525/1131
الظاہر	544/1149
القائز	549/1154
العاضد	555-67/1160-71

### ایوبی فتوحات

فاطمی حضرت علیؑ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے نام کی وجہ تسمیہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ لیکن سنی مخالفین عموماً انھیں عبید یون یعنی عبید اللہ المہدی کی نسل قرار دیتے اور حضرت علیؑ کے ساتھ ان کے کسی بھی تعلق کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ کچھ ہم عصر مخالفین نے تو یہ الزام تک لگا دیا کہ فاطمی یہودی النسل ہیں (یاد رہے کہ قرون وسطیٰ کے اسلام میں یہ الزام عائد کرنا عام بات تھی)۔ ساتویں امام اسماعیل کے ساتھ ان کا تعلق کبھی بھی واضح نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ فاطمی خلافت اسماعیلی انقلابی شیعہ تحریک کی نہایت پائیدار سیاسی کامیابی کی نمائندگی کرتی ہے۔

پہلا فاطمی خلیفہ عبید اللہ شام سے شمالی افریقہ آیا، جہاں شیعہ پراپیگنڈہ پہلے ہی اس کے لیے راہ ہموار کر چکا تھا۔ غیر فعال کچھ ماہی فروشوں کی معاونت سے اس نے افریقیہ کے اغلابی گورنر اور تاہرت کے خارجی رستمیوں کا تختہ الٹا اور فیز کے ادریسیوں کو اپنا ہاجکوار بنا لیا۔ سسلی پر قبضہ ہوا اور بازنطینیوں کے خلاف بحری آپریشن شروع کیا گیا۔ افریقیہ میں المہدیہ میں سے فاطمیوں نے

شرق میں مزید پیش قدمی کے لیے مال و اسباب جمع کیے اور 358/969 میں ان کا جرنیل جوہر پرانے قاہرہ میں داخل ہوا اور آخری اشیدی کو معزول کیا۔ افریقیہ میں المہدیہ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسی طرح یہاں بھی مصر کے لیے اپنا ایک نیا دارالحکومت بنانے کا آغاز کیا..... یعنی القاہرہ جس کا مطلب فاتح ہے۔

فاطمی مصر سے فلسطین اور شام تک گئے اور حجاز میں مقدس مقامات کی تولیت سنبھال لی۔ المستعصر کے طویل عہد حکومت کے دوران (94-87/1036-427) وہ اپنے اقتدار کے بام عروج پر پہنچے۔ ابتداً میں یونانیوں کے ساتھ شام کے مسئلے پر جھڑپیں ہونے کے بعد خلفاً اور بازنطین کے تعلقات عموماً خوش گوار ہی رہے؛ بعد ازاں یارہویں صدی میں شام اور اناطولیہ میں سلجوقوں اور ترکمان مہم پسندوں کی جانب سے مشترکہ خطرے کے باعث فاطمیوں کے اسماعیلی داعی یا مبلغ یمن اور سندھ تک بھی گئے، اور 451/1059 میں بغداد میں کچھ عرصہ کے لیے المستعصر کے نام پر مقبوضہ رہا۔ صدی کے اختتام پر پہلی صلیبی جنگ فاطمیوں سے زیادہ شام کے ترک حکمرانوں کے لیے تشویش ناک تھی، کیونکہ تب تک وہ فلسطین میں اسکالون کے شمال میں کسی علاقے کے بھی مالک نہ تھے۔ کچھ مسلمان مورخین نے الزام عائد کیا ہے کہ فاطمیوں نے فرائکوں کو لینڈ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی، لیکن یہ بات خلاف قیاس ہے۔ بارہویں صدی کے وسط میں فاطمی وزیروں نے حلب (الیپو) کے نورالدین زنگی اور دمشق کو صلیبیوں کے خلاف مدد دی تھی، لیکن پھر بھی ان کے آگے اسکالون ہار گئے (548/1153)۔ کچھ ہی عرصہ بعد فاطمی سلطنت اندر سے متزلزل ہونے لگی؛ اب خلفاً اپنی زیادہ تر طاقت سے محروم ہو چکے تھے، اور وزیراً نے زیادہ تر انتظامی اور عسکری قیادت سنبھال لی۔ چنانچہ صلاح الدین کے لیے 567/1171 میں آخری خلیفہ کے مرتے ہی فاطمی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دینا ہرگز مشکل نہ تھا۔

فاطمیوں نے عباسیوں کے ساتھ رقابت میں خود کو حقیقی خلیفہ اعلان کیا تھا، تاہم ان کے محکومین کی اکثریت سنی ہی رہی اور انہیں کافی مذہبی آزادی حاصل تھی۔ قاہرہ کے الازہر کالج میں تربیت پانے والے متعدد داعی فاطمی اقلیم سے باہر بھی کام کرنے گئے۔ ماسوائے پہلے غیر متوازن خلیفہ الحاکم کے عہد کے نصف اول کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک ہوا، اور ان

میں سے کچھ تو اعلیٰ ریاستی عہدوں پر بھی فائز رہے۔ الحاکم کے عہد حکومت کے دوران ہی جنوبی شام اور لبنان میں Druzes کی انتہا پسند شیعہ تحریک پیدا ہوئی۔ تحریک کے بانی داعی الدرزی کو الحاکم کی آشریاد حاصل ہونے کی وجہ سے Druzes خلیفہ کو خدا کے اوتار کے طور پر احترام دینے لگا۔ المستنصر کی وفات پر اسماعیلی تحریک میں کوئی سنگین پھوٹ موجود نہ تھی، دو فریقے ان کے دو بیٹوں نزار اور مستعلی کے پیروکار تھے۔ اول الذکر فرقہ نسبتاً زیادہ متحرک اور انتہا پسند تھا، جس کے پیروکار شام اور فارس کے اسماعیلی بنے؛ جبکہ مستعلی کے کچھ حد تک معتدل پیروکار ممبئی کی موجودہ بوہرہ اسماعیلی برادری کے آبا و اجداد ہیں۔ المستعلی نے خلافت برقرار رکھی، لیکن فاطمی تحریک کی روحانی بنیاد کچھ حد تک اہل چکی تھی، بالخصوص 525/1130 میں العامر کی وفات پر پیدا ہونے والے مذہبی-سیاسی بحران کے باعث۔

فاطمی عہد میں مصر اور قاہرہ نے معاشی خوشحالی اور ثقافتی رنگارنگی دیکھی جس نے معاصر عراق اور بغداد کی ثقافتی بوقلمونی کو بھی گہنا دیا۔ ہندوستان اور ابيض المتوسط کے عیسائی ممالک سمیت غیر اسلامی دنیا کے ساتھ تجارتی رابطے بنائے گئے؛ تجارتی سرگرمی میں یہودی ایک اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دور میں بھی اسلامی فنون کی کچھ عمدہ ترین مصنوعات مصر کے کارخانوں میں ہی پیدا ہوتی تھیں۔

## 20- حمدانی (1004-905/394-293)

الجزیرہ اور شام

1- موصل شاخ

ابوالہاجہ عبداللہ (خلیفہ کی جانب سے موصل کا	293/905
گورنر	
ناصر الدولہ حسن	317/929
عدوالدولہ ابوتغلب	358/969
بیوٹی فتح	369/979

ابراہیم، الحسین (بیویوں نے انھیں مشترکہ حکمرانوں کے طور پر بحال کیا)۔ 379-89/981-91

## 2- الیپو (حلب) شاخ

سیف الدولہ علی اول 333/945

سعد الدولہ شریف اول 356/967

سعد الدولہ سعید 381/991

علی دوم 392/1002

شریف دوم 394/1004

غلام سپہ سالار ٹولون نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور پھر فاطمیوں کی فتح حمدانیوں کا تعلق عرب قبیلے تغلب سے تھا اور وہ طویل عرصہ سے الجزیرہ میں آباد تھے (اگرچہ کچھ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محض تغلب کے موالی تھے)۔ خاندان کے مقدر کا بانی حمدان بن حمدون نویں صدی کے اواخر میں خلافتی حاکمیت کے خلاف بغاوت میں الجزیرہ کے خارجیوں کا حلیف نظر آتا ہے۔ بعد میں حمدانیوں نے شیعہ عقیدہ اختیار کر لیا جو شامی ساحلی پٹیوں پر آباد زیادہ تر اعراب کا عقیدہ تھا۔ تاہم حمدان کا بیٹا الحسین عباسیوں کی خدمت میں ایک کمانڈر بنا اور شامی صحرا کے قرامطیوں کے خلاف لڑائی میں خود کو ممتاز کیا۔ ایک اور بیٹا ابوہیجا عبداللہ 293/905 میں موصل کا گورنر تعینات ہوا، اور عبداللہ کا بیٹا الحسن انجام کار وہاں ناصر الدولہ کے طور پر تخت نشین ہوا۔ اس نے ایک خود مختار حکمران کی حیثیت میں اپنی حاکمیت کو مغرب میں حمدانیوں کے اصل مرکز دیار ربی سے لے کر شام تک وسیع کر لیا۔ الحسن کا بیٹا ابو تغلب (المعروف بہ الغضنفر) کافی بد قسمت رہا کیونکہ اسے عظیم بیوٹی امیر عدو الدولہ کا عین اس دور میں سامنا کرنا پڑا جب موخر الذکر کا اقتدار اپنے بام عروج پر تھا۔ عدو الدولہ نے شمال کی جانب پیش قدمی کی اور ابو تغلب کو بے دخل کیا جو بھاگ کر مدینے کے لیے فاطمیوں کے پاس چلا گیا مگر مدینہ مل سکی۔ بعد ازاں بیویوں نے موصل میں اس کے دو بھائیوں کو بحال کر دیا اور وہ کچھ عرصہ تک وہاں حکومت کرتے رہے، حتیٰ کہ عرب امراء کے ایک اور خاندان، عقیلیوں نے شہر کو فتح کر لیا۔

بایں ہمہ، حمدانی اب بھی شام میں زمینوں کے مالک تھے جہاں ابو تغلب کا چچا، مشہور سیف الدولہ حکومت کر رہا تھا، جس نے حلب، حمص اور اکشیدیوں کے دیگر قبضوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ شام میں حمدانیوں کی حکومت قائم ہونے کے دور میں ہی پر عزم مقدونیائی شہنشاہوں کی قیادت میں بازنطینی مقدر بھی جاگ رہا تھا، اور سیف الدولہ کی زیادہ تر عرصہ حکومت اپنی زمینوں کو یونانیوں سے بچانے میں ہی گذرا۔ اس کا بیٹا سعد الدولہ یونانیوں کو شام پر متعدد بار حملے کرنے اور عارضی طور پر حلب و حمص پر قبضہ کرنے سے باز نہ رکھ سکا، حالانکہ یہ علاقے حمدانیوں کے باج گزار تھے۔ نیز، جنوبی شام میں فاطمیوں کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی صورت میں ایک اور خطرہ پیدا ہوا۔ آخر کار سعد الدولہ کا بیٹا سعید الدولہ مارا گیا، (غالباً اپنے غلام جرنیل لولو کی سازش سے، جو قبل ازیں حمدانیوں کے دو بیٹوں کے لیے نائب السلطنت کے طور پر حکومت کر چکا تھا، لیکن بعد میں آزادانہ طور پر فاطمیوں کے غلام کے طور پر اقتدار سنبھال گیا۔

حمدانیوں نے عربی ادب کے شاندار سرپرستوں کے طور پر شہرت حاصل کی۔ سب سے بڑھ کر سیف الدولہ نے شاعر الممتسی کی حوصلہ افزائی کی۔ تاہم متعدد تجارتی مراکز پر مشتمل ایک خوش حال خطے کے حکمران بن جانے کے باوجود حمدانیوں میں بدوؤں والی غیر ذمہ داری اور غارت گری ہنوز باقی تھی۔ شام اور الجزائرہ نے جنگی لوٹ مار کا سامنا کیا، لیکن جغرافیہ دان ابن الحوقل بتاتا ہے کہ امیروں کی زیادتیوں نے بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دی تھی۔

## 21- مزیدی (اندازاً 1150-1161/961-350)

حلال اور وسطی عراق

ھنا الدولہ علی بن مزید	اندازاً 350/961
نور الدولہ دبیز اول	408/1018
بہاؤ الدولہ منصور	474/1081
سیف الدولہ صادق اول	479/1086
نور الدولہ وہب دوم	501/1108



سیف الدولہ صادق دوم

529/1135

محمد

532/1138

علی دوم

540-5/1145-50

سلجوق فوجوں کی تسخیر

مزیدیوں کا تعلق قبیلہ اسد سے تھا اور وہ شیعوں کے ساتھ گہری ہمدردی رکھتے تھے۔ خاندان نے ہیبت اور کوفہ کے درمیانی خطے میں اس وقت قبضہ کیا جب بیوئی امیر معز الدولہ نے تقریباً 345/956 اور 352/963 کے درمیان انھیں وہ زمینیں تفویض کیں۔ علی بن مزید کی حکومت کے آغاز کو ابتدائی گیارہویں صدی کا ہی تصور کرنا چاہیے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ مزیدی دارالحکومت حلہ گیارہویں صدی کی ابتدا میں ہی ایک مستقل آبادی بن چکا تھا۔ عظیم صدقا اول بن منصور کے دور میں شہر کے گرد ایک مضبوط دیوار بنائی گئی اور یہ عراق میں مزیدی اقتدار کا طاقتور مرکز بن گیا۔

مزیدیوں نے اپنے بدو ہونے کے باوجود خود کو ماہر منتظم اور سفارتکار ثابت کیا اور سلجوق عہد کے عراق میں بدلتے ہوئے اتحادوں میں ایک نمایاں طاقت بن گئے۔ ان کے ابتدائی دشمن موصل اور الجزیرہ کے عقیلی تھے جنہوں نے ذہب اول بن علی کے دور حکومت میں ذہب کے بھائی مقلد کو تاج و تخت حاصل کرنے میں مدد دی تھی۔ جب طغرل اور سلجوق عراق میں نمودار ہوئے تو ذہب کو ترک حملہ آوروں کی جانب سے خطرہ لاحق ہوا اور اس نے بغداد میں فاطمیوں کے حامی شیعہ جرنیل ارسلان بسا سیری کی حمایت کر دی۔ سلجوق برک یروق کے کشن دور حکومت میں صدقا اول (نام نہاد ”عربوں کا بادشاہ“) نے زبردست اثر و رسوخ حاصل کر لیا، لیکن ایک مرتبہ جب سلطان محمد بن ملک شاہ نے اقتدار پر مضبوطی سے قبضہ جمایا تو اپنے حد سے زیادہ طاقتور غلام کی جانب متوجہ ہوا، اور 501/1108 میں صدقا کو جنگ میں شکست دی اور مار ڈالا۔ بعد کے مزیدیوں نے سلطان مسعود بن محمد کے خلاف مختلف ترک امیروں کے ساتھ اتحاد کیا اور سلجوق اور خلافتی افواج نے متعدد مواقع پر حلہ پر قبضہ حاصل کیا۔ صدقا کے بیٹے ذہب دوم نے صلیبیوں میں بہت شہرت کمائی، اور وہ اپنے عہد کے عربی شعراً کا بہت بڑا سرپرست تھا، لیکن اسامینیوں میں سے ایک نے اسے بھی خلافتی مسترشد کے ساتھ ہی قتل کر ڈالا۔ آخری مزیدی علی دوم بن ذہب نے 545/1150 میں

وفات پائی تو مسعود نے حلہ اپنے ایک جرنیل کو دے دیا، اور چند برسوں بعد آنے والی خلافتی فوج نے حلہ میں مزیدی افواج اور جماعتوں کو منتشر کر دیا۔

## 22- مروانی (372-478/983-1085)

دیار بکر

؟

بادھ

الحسن ابن مروان

380/990

محمد الدولہ سعید

387/997

نصر الدولہ احمد یا محمد ابن مروان

401/1011

نظام الدولہ نصر (میا فاروقین میں اور اس کے

453/1061

بعد 455/1063 میں آمد میں)

سعید (آمد میں 455/1063 تک)

453/1061

منصور

472-8/1079-85

سلجوق فتح

دیار بکر، خلاط اور ملازگرد کے مروانی کردائیں تھے۔ ان کا بانی بادھ ایک کرد سردار تھا جس نے آرمینیا اور کردستان کی سرحد پر کچھ اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا؛ 372/983 میں عدو الدولہ کی وفات کے بعد جب بیویوں کی سلطنت کمزور ہوئی تو اس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ وقت کے لیے موصل کو اپنے تسلط میں رکھا اور حتیٰ کہ 373/983 میں بغداد کے لیے بھی خطرہ بن گیا۔ اس کے بھتیجے ابن مروان (ناصر الدولہ) نے پچاس سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی اور مروانی اقتدار کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ عراق اور شام کے شمال اور اناطولیہ سے آنے والے تجارتی راستوں پر واقع ہونے کی وجہ سے اہم دیار بکر پر قابض ہونے کا مطلب تھا کہ ابن مروان کو اپنے طاقت ور پڑوسیوں (جو اس اہم علاقے پر تسلط جمانے کے لیے کوشاں تھے) کے درمیان زندہ رہنے کے لیے ایک ماہرانہ سفارتی پالیسی کی ضرورت تھی۔ اس نے ابتدا میں ہی عباسی خلیفہ کو تسلیم

کر لیا، لیکن شمالی شام میں اس کے فاطمی پڑوسی بھی موجود تھے، اور دیار بکر میں فاطمی ثقافتی اثر بہت زیادہ تھا۔ کچھ عرصہ تک اسے موصل کے عقیلیوں کو خراج دینا پڑا اور 421/1030 میں نصیبین بھی انھیں دے دیا۔ بازنطینیوں کے ساتھ اس کے تعلقات پر امن تھے، اور شہنشاہ کانستانتائن دہم نے جارجیائی بادشاہ لپارت کو سلجوق سلطان طغرل کی قید سے چھڑانے کے لیے ابن مروان کے حکام کو استعمال کیا۔ اوغوز خانہ بدوشوں اور ان کے ریوڑوں کو 42-433/1041 میں دیار بکر سے نکال باہر کیا گیا، اور خود طغرل 448/1056 تک (جب ابن مروان نے اسے سرپرست کے طور پر قبول کیا) وہاں ظاہر نہ ہو۔ داخلی لحاظ سے آمید، میافارقین، اور حصن کیفا کے قصابات نے کافی خوش حالی کے دن دیکھے اور وہاں ثقافتی زندگی کو فروغ حاصل ہوا؛ میافارقین کا مقامی مورخ ابن الازرق بتاتا ہے کہ کس طرح ابن مروان نے ٹیکس کم کیے اور بہت سے عوامی فلاح کے کارنامے سرانجام دیے۔

453/1061 میں اس کی وفات پر اس کے علاقے دو بیٹوں نصر اور سعید میں تقسیم کیے گئے، لیکن اب مروانی طاقت گہنا گئی تھی۔ خلافتی وزیر فخر الدولہ بن جاہیر (جو قبل ازیں ابن مروان کی خدمت کر چکا تھا) کی ہوس پرستی کو مہینز ملی، اگرچہ مروانیوں نے سلجوقوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ فخر الدولہ اور اس کے بیٹے عمید الدولہ نے 478/1085 میں سلطان ملک شاہ سے اجازت حاصل کر لی کہ وہ سلجوق فوج لے کر مروانی علاقے پر حملہ کریں۔ شدید لڑائی کے بعد انھوں نے فتح حاصل کی اور مروانی علاقوں کو سلجوق سلطنت میں شامل کر لیا۔ آخری مروانی حکمران منصور 489/1096 تک جزیرہ ابن عمر کے پاس رہا۔ لیکن آنے والی صدیوں میں دیار بکر ترک سلطنتوں کے ماتحت ہی رہا۔

## 23- عقیلی (اندازاً 380-489/990-1096)

الجزیرہ، عراق اور شمالی شام

1- جزیرہ ابن عمر، نصیبین اور بلد کی نسل

جناب الدولہ علی	386/996
شان الدولہ الحسن	390/1000
نور الدولہ مصعب	393/1003
2- موصل میں اور بعد ازاں جزیرہ ابن عمر، نصیبین اور بلد کی نسل	
محمد	اندازاً 382/992
حسام الدولہ المقلد	386/996
معمد الدولہ قرداش	391/1001
ضعیم الدولہ برکہ	442/1050
عالم الدین قریش	443/1052
شرف الدولہ مسلم	453/1061
ابراہیم	478/1085
علی	486-9/1093-6

سلجوق نقش کی تسخیر

3- نکریت میں معن بن المقلد کی نسل

رافع	؟
خمیس	427/1036
ابوغشام	435/1044
عیسیٰ	444/1052
نصر	448/1056
ابوالغنا، عیسیٰ کی بیوہ کا مقرر کردہ گورنر	449-?/1057-?

4- عانا اور الحسیہ، قلعت ہجر، عکبرہ اور ہیت میں چھوٹی موٹی شاخیں۔

عقیلیوں کا تعلق عظیم بدوقبالی گروہ عامر بن مصعب سے تھا جس میں زیریں عراق کے خفاج اور منفق بھی شامل تھے۔ موصل میں آخری حمدانیوں کے انحطاط کے ساتھ یہ شہر عقیلی محمد کے قبضے

میں آگیا جس نے اسے بیوٹی بہا الدولہ کی برائے نام نیابت میں اپنے پاس ہی رکھا۔ محمد کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے لڑائی ہونے لگی، لیکن موصل اور دیگر عقیلی قصبات اور الجزیرہ میں قلعے انجام کار قرواش بن المقلد کے پاس آگئے۔ قرواش کا اصل مسئلہ اپنے علاقوں کو گیارہویں صدی کے تیسرے اور چوتھے عشروں کے دوران مغربی فارس اور عراق کے اوغوز حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اور اس دفاع کے لیے عراق میں ایک اور خطرے سے دوچار طاقت یعنی مزیدیوں کے ساتھ اتحاد کرنا لازمی تھا۔

مسلم بن قریش کے دور میں عقیلی سلطنت بغداد سے لے کر حلب تک وسعت اختیار کر گئی۔ شیعہ ہونے کے ناطے مسلم بن قریش کا جھکاؤ سلجوقوں کے خلاف فاطمیوں کی مدد کرنے کی جانب تھا، لیکن اس نے شمالی شام میں مرداسی علاقے حاصل کرنے کی خاطر سلطان الپ ارسلان خان اور ملک شاہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن فاطمیوں کی جانب دوبارہ رخ کرنے کے نتیجے میں سلجوق افواج موصل میں آگئیں اور مسلم کو آمید سے بھاگ کر حلب جانے پر مجبور کیا جہاں وہ سلجوق باغی سلیمان بن قنمش کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا (478/1085)۔ عقیلی موصل میں گورنروں کی حیثیت میں بدستور موجود رہے، حتیٰ کہ ٹنیش نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن کچھ دیگر عقیلی الجزیرہ میں مقامی جاگیردار بن گئے، رقبہ اور قلعت ہمر والی شاخ 564/1169 تک موجود رہی جنھیں نورالدین زنگی نے شکست دی۔

لگتا ہے کہ عقیلی مکمل طور پر ایک غارت گردوی سلطنت نہیں تھے، بلکہ انھوں نے اپنے علاقوں کی عباسی انتظامیہ میں کچھ معیاری خصوصیات متعارف کروائی تھیں؛ ذکر ملتا ہے کہ مسلم بن قریش نے ہر گاؤں میں ایک پوسٹ ماسٹر یا مقام انٹیلی جنس انفر (صاحب الخمر) تعینات کیا ہوا تھا۔ عقیلیوں اور ان کے کچھ ہی عرصہ بعد مزیدیوں کے خاتمے سے ایک دور کا اختتام ہوا جس میں عرب امرائے عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر حکومت قائم رکھی اور خود کو فاطمیوں، بیویوں اور سلجوقوں کی عظیم طاقتوں کے درمیان قائم رکھا۔ ان امرائے شیعہوں کے ساتھ ہمدردیاں اور مغرب میں دیار بکر اور اناطولیہ پر آ کر ختم ہونے والے تجارتی رستوں پر ان کی اہم حیثیت نے انھیں ناگزیر طور پر توسیع پسند سنی سلجوقوں کے خلاف کر دیا۔ تب کے بعد عراق، الجزیرہ اور شام میں سیاسی اور عسکری قیادت تقریباً ہمیشہ ہی ترکوں کے ہاتھ میں رہی۔

## 24 مرداسی (414-72/1023-79)

## حلب اور شمالی شام

اسد الدولہ صالح بن مرداس	414/1023
فہیل الدولہ نصر اول	420/1029
فاطمی فتوحات	429/1038
معز الدولہ شمال، پہلا دور حکومت	433/1041
فاطمی قبضہ	449/1057
رشید الدولہ محمود، پہلا دور حکومت	452/1060
شمال، دوسرا دور حکومت	453/1061
عطیہ (رکہ میں 463/1071 تک)	454/1062
محمود، دوسرا دور حکومت	457/1065
جلال الدولہ نصر دوم	466/1074
سابق	468-72/1076-9

## عقبلی قبضہ

مرداسی کلاب کے شمالی عرب قبیلے کا ایک حصہ تھے جو یارہویں صدی کے آغاز میں عراق کے حلقے سے شمال کی جانب ہجرت کر کے حلب چلے گئے۔ ان کے رہنما صالح بن میرداس نے 414/1023 میں حلب پر قبضہ کیا تھا۔ چنانچہ مرداسی ہجرت بدوؤں (جن میں سے زیادہ تر کا تعلق شیبعی عقائد سے تھا) کے عمومی رجحان کا ایک حصہ تھی۔ وہ دسویں اور یارہویں صدی کے آغاز میں عراق کی بیرونی آبادیوں سے شام کی جانب جا رہے تھے۔ ممکن ہے کہ قرامطی تحریک کے باعث شامی صحرا میں پیدا ہونے والی صورت حال نے اس ہجرت کو تحریک دی ہو۔

حلب میں قدم مضبوط کر لینے کے بعد صالح اور اس کے بیٹوں نصر اور شمال کو ایک طرف شمالی شام کے حکمران فاطمیوں، جبکہ دوسری طرف شورش انگیز بازنطینیوں سے خود کو محفوظ بنانا تھا۔ چار برس تک حلب پر دمشق کے فاطمی گورنر انوشکین (41-429-33/1038) کا تسلط قائم رہا؛ اور



شمال کو 449/1057 میں دوسری مرتبہ حلب چھوڑ کر اس کے بدلے میں Acre، بیروت اور حمیل لینا پڑا کیونکہ کلابی قبائلی حلب میں اس کی حیثیت پر معترض تھے۔ سلجوقوں کا مغرب کی سمت میں بڑھنا، ترکمان خانہ بدوشوں کی شمالی شام میں آمد اور وہاں فاطمی طاقت کا انحطاط مرداسیوں کو ایک نئی صورت حال سے دوچار کر رہا تھا۔ محمود بن نصر نے سلجوق سلطان الپ ارسلان کے سامنے اظہار اطاعت کی خاطر فاطمیوں کی بجائے سُنی عباسیوں کے ساتھ الحاق کر لیا۔ بعد ازاں مرداسیوں کے ترک کرائے کے سپاہیوں اور کلاب قبائلیوں کے درمیان جھگڑوں نے حلب میں مرداسی حاکمیت کی جڑیں کھوکھلی کیں، اور 468/1076 میں دو مرداسی بھائیوں سابق اور وثاب کے درمیان خانہ جنگی چھڑ گئی۔ شام میں اپنے لیے ایک جاگیر حاصل کرنے کے خواہشمند تثنش کی جانب سے حلب پر دباؤ کے باعث سابق کو 472/1079 میں شہر کو عقیلی مسلم بن قریش کے حوالے کرنا پڑا۔ مرداسی خاندان کے زندہ بچنے والے ارکان کو شام میں مختلف قصابات بطور عطیہ دیے گئے۔

## 25- ایوبی (پندرہویں صدی کا آخر-1169/نویں صدی کا آخر-564)

مصر، شام، دیار بکر، یمن

### 1- مصر میں

الملك الناصر اول صلاح الدين (سلادین)	564/1169
الملك العزيز عماد الدين	589/1193
الملك المنصور ناصر الدين	595/1198
الملك العادل اول سيف الدين	596/1200
الملك الكامل اول ناصر الدين	615/1218
الملك العادل دوم سيف الدين	635/1238
الملك الصالح نجم الدين ايوب	637/1240
الملك المعظم توران شاه	647/1249

المملک الاشرف دوم مظفر الدین 648-50/1250-52

بحری مملوک

### 2- دمشق میں

المملک الافضال نور الدین علی	582/1186
المملک العادل اول سیف الدین	592/1196
المملک المعظم شرف الدین	615/1218
المملک الناصر صلاح الدین داؤد	624/1227
المملک الاشرف اول مظفر الدین	626/1229
المملک الصالح عماد الدین، پہلا دور حکومت	635/1237
المملک اکاٹل اول ناصر الدین	635/1238
المملک العادل دوم سیف الدین	635/1238
المملک الصالح نجم الدین ایوب، پہلا دور حکومت	636/1239
المملک الصالح عماد الدین، دوسرا دور حکومت	637/1239
المملک الصالح نجم الدین ایوب، دوسرا دور حکومت	643/1245
المملک المعظم توران شاہ (مصر کے ساتھ)	647/1249

المملک الناصر دوم صلاح الدین 648-58/1250-60

منگول فتوحات

### 3- حلب میں

المملک العادل اول سیف الدین	579/1183
المملک الظاہر غیاث الدین	582/1186
المملک العزیز غیاث الدین	613/1216
المملک الناصر دوم صلاح الدین	634-58/1237-60

منگول فتوحات

## 4- دیار بکر (میافارقین اور جبل سنجار)

الملك الناصر اول صلاح الدين	581/1185
الملك العادل اول بييف الدين	591/1195
الملك الاوحد نجم الدين ايوب	596/1200
الملك الاشرف اول مظفر الدين	607/1210
الملك المظفر شهاب الدين	617/1220
الملك الكامل دوم ناصر الدين	642-58/1244-60

منگول فتوحات

## 5- دیار بکر (حصن کیف اور آمید)

الملك الصالح نجم الدين ايوب	629/1232
الملك المعظم توران شاه	636/1239
الملك الموحّد تقي الدين	647/1249
الملك الكامل سوم محمد	682/1283
الملك العادل مجير الدين	?
الملك العادل شهاب الدين	?
الملك الصالح ابو بكر	?
الملك العادل فخر الدين	780/1378
الملك الاشرف شرف الدين	?
الملك الصالح صلاح الدين	836/1433
الملك الكامل چهارم احمد	856/1452
الملك العادل خلف	
خليل (?)	866/1462
سليمان	?

الحسین

؟

اق قوینلو (Aq Qoyunlu) کی فتح

6- یمن

الملك المعظم شمس الدین توران شاه	569/1174
الملك العزيز الظاهر الدین تغجبن	577/1181
معز الدین اسماعیل	593/1197
الملك الناصر ایوب	598/1202
الملك المنظر سلیمان	611/1214
الملك المسعود صلاح الدین	612-26/1215-29

اقتدار پر رسولیوں کا قبضہ

7- بعلبک، حمص، کرک، ہما، بنیاس اور سویبا اور بصرہ میں

خاندان کی چھوٹی موٹی شاخیں

سلطنت کا بانی ایوب کردوں کے بدھبانی قبیلے سے تھا، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خاندان ترک سپاہیوں کی جانب سے خدمات انجام دینے کی وجہ سے کافی حد تک ترک رنگ میں رنگا گیا تھا۔ موصل اور حلب میں ترک کمانڈرزنگی بن اقسونقر نے کردوں کی ایک بڑی تعداد کو بھرتی کیا جن میں 532/1138 میں ایوب بھی شامل تھا، اور جلد ہی اس کا بھائی شیرکوہ بھی زنگی کے بیٹے نورالدین کی خدمت میں آ گیا۔ 564/1169 میں شیرکوہ مصر پر مقتدر ہو گیا لیکن اسے جلد ہی موت نے آ لیا، اور فوجوں نے اس کے بھتیجے صلاح الدین کو اس کا جانشین منتخب کر لیا۔

مشہور و معروف صلاح الدین سلطنت کا حقیقی بانی تھا۔ اس نے مصر میں فاطمی حکومت کے آخری چراغ بھی گل کر دیے اور ان کے سابقہ علاقوں میں ایک زبردست سنی مذہبی و تعلیمی پالیسی نافذ کی۔ پرانے فاطمی علاقوں میں ایوبی فتح نے بنیاد پرست سنی ری ایکشن کو مکمل کیا جو سلجوق عہد کے دوران سابقہ بیوٹی علاقوں میں سیاسی شیعہ ازم کو معزول کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی پالیسی کا ایک پہلو صلیبیوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا تھا..... ایک ایسی پالیسی جس نے اسلامی

جوش و جذبے کو اس کے ماتحت کر دیا اور اسے اس قابل بنایا کہ ترکوں، عربوں اور کردوں کی ایک مضبوط فوج بنائے۔ 583/1187 میں حطین کی فتح کے ساتھ یروشلم کا مقدس شہر اسی برس کے بعد ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور فرائگون کو، چاہے عارضی طور پر ہی سہی، چند ایک ساحلی قصبات کے سوا ان کی تمام املاک سے نکال باہر کیا گیا۔

صلاح الدین ایوبی نے 589/1193 میں اپنی وفات سے قبل ایوبی سلطنت کے متعدد حصے، (شام، الجزائرہ اور یمن کے شہروں سمیت) اپنے خاندان کے مختلف افراد کو بطور جاگیر عطا کر دیے۔ پھر بھی خاندانی اتحاد اور مرکزی کنٹرول کا ایک احساس العادل اور الکامل کے دور تک قائم رہا۔ ان دو سلاطین کے عہد میں صلاح الدین کی فعال پالیسی کی جگہ فرائگون کے ساتھ پر امن تعلقات نے لے لی..... بالخصوص دیار بکر اور الجزائرہ میں شمالی ایوبی رومی سلجوقوں اور خوارزم شاہان کی جانب سے دباؤ کا شکار تھے۔ الکامل کا یروشلم شہر شہنشاہ فریڈرک دوم کو واپس کر دینا اس پالیسی کا نقطہ عروج تھا، اور امن کے دور نے مصر اور شام کو زبردست معاشی فائدے پہنچائے۔ ان میں سے ایک فائدہ میڈی ٹریڈین کے عیسائیوں کے ساتھ تجارت کی بحالی بھی تھا۔

635/1238 میں الکامل کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت داخلی جھگڑوں کا شکار ہو گئی۔ چھٹی صلیبی جنگ لڑی گئی اور اس کے رہنما فرانسیسی بادشاہ سینٹ لوئس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جلد ہی صالح کی موت کے بعد ترک بحری غلام سپاہیوں نے مصر میں اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور ایک کو پہلے اتابیک اور پھر 648/1250 میں اپنا سلطان بنا لیا۔ العادل نے 648/1250 میں اپنے نوجوان پوتے المسعود صلاح الدین کو ایک اتابیک کے ہمراہ یمن پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ایوبی وہاں اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے اور علاقہ ان کے سابق خدمت گاروں، ترک رسولیوں کے پاس چلا گیا۔ پیش تر شمالی ایوبیوں کو منگول اپنے ساتھ بہالے گئے اور صرف ہما شاخ ہی اپنی گم نامی اور غیر فعالیت کی وجہ سے 742/1342 تک باقی بچی رہی۔ تاہم دیار بکر میں حسن کیفا کے اردگرد ایک مقامی کردی جاگیر تیموریوں سے بچ گئی، اور ایوبیوں کے اس سلسلے کا خاتمہ صرف اق قوینلو نے ہی کیا۔

## 26- مملوک (1517-1250/922-648)

مصر اور شام

## 1- بحری سلسلہ (1390-1250/792-648)

شجر الدر	648/1250
المعز عز الدین ایبک	648/1250
المختصر نور الدین علی	655/1257
المظفر سیف الدین قطز	657/1259
الظاہر رکن الدین عہد س اول البندقداری	658/1260
السیف ناصر الدین برکہ (یا برک) خان	676/1277
العادل بدر الدین سلامش	678/1280
المختصر سیف الدین قلاؤن الالفی	678/1280
الاشرف صلاح الدین خلیل	689/1290
الناصر ناصر الدین محمود، پہلا دور حکومت	693/1294
العادل زین الدین کتبغا	694/1295
المختصر حسام الدین لاجین	696/1297
الناصر ناصر الدین محمود، دوسرا دور حکومت	698/1299
المظفر رکن الدین عہد س دوم اجا شنکیر	708/1309
الناصر ناصر الدین محمود، تیسرا دور حکومت	709/1309
المختصر سیف الدین ابوبکر	741/1340
الاشرف علاء الدین کوجوک	742/1341
الناصر شہاب الدین احمد	743/1342
الصالح عماد الدین اسماعیل	743/1342
الکامل سیف الدین شعبان اول	746/1345

المظفر سیف الدین حجاج اول	747/1346
الناصر ناصر الدین الحسن، پہلا دور حکومت	748/1347
الصالح صلاح الدین صالح	752/1351
الناصر ناصر الدین الحسن، دوسرا دور حکومت	755/1354
المصور صلاح الدین محمود	762/1361
الاشرف ناصر الدین شعبان دوم	764/1363
المصور علاء الدین علی	778/1376
الصالح صلاح الدین حجاج دوم، پہلا دور حکومت	783/1382
الظاہر سیف الدین برقوق (برجی)	784/1382
حجاج دوم (دوسرا دور حکومت، المظفر یا المصور کے لقب کے ساتھ)	791/1389

## 2- بُرجی سلسلہ (784-922/1382-1517)

الظاہر سیف الدین برقوق، پہلا دور حکومت	784/1382
حجاج دوم (دوسرا دور حکومت، بحری)	791/1389
الظاہر سیف الدین برقوق، دوسرا دور حکومت	792/1390
الناصر ناصر الدین فرج، پہلا دور حکومت	801/1399
المصور عز الدین عبدالعزیز	808/1405
الناصر ناصر الدین فرج، دوسرا دور حکومت	808/1405
العاذل المستعین (عباسی خلیفہ، سلطان کا داعی)	815/1412
المعید سیف الدین شیخ	815/1412
المظفر احمد	824/1421
الظاہر سیف الدین ططار	824/1421
الصالح ناصر الدین محمود	824/1421



الاشرف سیف الدین برہے	825/1422
الاعزیز جمال الدین یوسف	841/1437
الظاہر سیف الدین ہتمق	842/1438
المصوٰر فخر الدین عثمان	857/1453
الاشرف سیف الدین اتال	857/1453
المعید شہاب الدین احمد	865/1461
الاشرف سیف الدین خوشقدم	865/1461
الظاہر سیف الدین یلبے	872/1467
الظاہر تمور بغا	872/1467
الاشرف سیف الدین قاعت بے	872/1468
الناصر محمود	901/1496
الظاہر قانصوح	903/1498
الاشرف جانمات	905/1500
العاول سیف الدین تومان بے	906/1501
الاشرف قانصوح الغوری	906/1501
الاشرف تومان بے	922/1516

### عثمانی فتح

مملوک مصر اور شام میں ایوبیوں کی بھرپور اٹاک کے وارث بنے۔ اپنے عہد کی زیادہ تر بڑی اسلامی سلطنتوں کی طرح ایوبیوں نے بھی پیشہ ور غلام محافظ رکھنے کو ضروری خیال کیا تھا، اور مملوک کا لفظی مطلب غلام رکھنے والا ہے۔ مملوک الملک الصالح کی ترک پہ میں سے لکے۔ مملوکوں کی اڑھائی سو سالہ خود مختار حکمرانی کے بعد سلاطین کے دو سلسلے بنے: بحری، جن کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ دریائے نیل (البحر) کے کنارے بنی بیرکوں میں رہتے تھے؛ اور نجدی، جنہیں سلطان قلاعون نے قاہرہ قلعے (البرج) میں تعینات کیا تھا۔ خاندانی جانشینی کا سلسلہ عموماً بحریوں

میں ہی جاری رہا، لیکن برجیوں میں موروثی جانشینی کی اجازت ہرگز نہ تھی۔ وہ سینیاریٹی کے ایک قسم کے ترک نظام پر عمل پیرا تھے۔ نسلی اعتبار سے بحری مرکزی طور پر جنوبی روس کے قپچاق تھے اور ان میں کردوں اور منگولوں کی آمیزش تھی۔ جبکہ بُرجی بنیادی طور پر کاکیشیا کے Circassian تھے۔ ابتدائی انیسویں صدی میں مملوکوں کا اختتام ہونے تک سرکاشیا (Circassia) ہی ان کی زیادہ تر افرادی قوت فراہم کرتا رہا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ مملوک دو یا تین پشتوں کے بعد اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے تھے، لگتا ہے کہ مملوک خاندان اپنی افزائش تو درست طریقے سے کرتے رہے لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے پیشہ سپہ گری ترک کر دیا۔

مملوکوں کا نظام مراتب بہت پیچیدہ تھا جس میں سلطان کے اپنے مملوک سب سے اوپر تھے۔ انتظامی ڈھانچے میں کامیابی کے لیے غلام کی حیثیت ہونا لازمی تھا۔ جبکہ آزاد عناصر، سابق مملوکوں کے بیٹوں سمیت، کونوج میں محض ایک کتر حیثیت حاصل تھی۔ (عثمانی ترک غلام روایت میں بھی یہی بات پائی جاتی تھی جہاں قہی قلاری کو ترقی کے زیادہ بہتر مواقع حاصل ہوتے تھے۔) سلطان کی من مانی طاقت پر مرکزی امر اور بیوروکریسی چیک رکھتی تھی۔ اور سلطنت کی ناپائیداری کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ حکمران بہت جلدی جلدی تبدیل ہوتے رہے۔ مملوکوں نے ایوبیوں کی کنزسنی پالیسی جاری رکھی، اور قاہرہ میں عباسیوں کے ایک خاندان کی کفالت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ تھا۔

مملوک ریاست کی طاقت اور کامیابیاں متاثر کن تھیں۔ قنز نے ہولیکو منگولوں کو 658/1260 میں عین جالوت کے مقام پر شکست دی، اور اس کے جانشین مہرس نے فتح کو استحکام دیا اور اپنا دور شروع کیا، تاہم اس کے کافی عشرے بعد بھی منگولوں کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہا۔ تیرھویں صدی کے اختتام تک شامی فلسطینی اقتدار کے ماتحت صلیبی شہروں کو خوفناک شکست سے دوچار کیا سجا چکا تھا اور چھوٹے آرمینیا یا سلجیقا کی روہنی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یوں مملوکوں کو مسلمان دنیا میں پاگان (بت پرستوں) اور عیسائیوں کے ہتھوڑوں کے طور پر زبردست شہرت حاصل ہو گئی۔ ان کے علاقے مغرب میں سائبریکا، جنوب میں نیویا اور مساوا، شمال میں کوہ تارس تک وسیع ہو گئے اور انھوں نے عرب کے مقدس شہروں کی حفاظت کی۔ پندرھویں صدی میں عثمانیوں کو مملوکوں کے مرکزی دشمن تسلیم کیا جانے لگا۔ مغربی دیار بکر میں دلفدیر اوغولاری کی ترکمان جاگیر کو بفر سٹیٹ کے

طور پر قائم رکھا گیا اور قرمانیوں کی مدد کی گئی۔ لیکن عثمانیوں کے برتر جوش و جذبہ اور اسلحہ و گولہ بارود کے استعمال میں مہارت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ حقیقی اہمیت کا حامل آخری مملوک سلطان قسوح الغوری 922/1516 میں حلب کے نزدیک مرج دابق کی لڑائی میں مارا گیا، اور اس کے بعد سلیم نے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ اب یہ علاقے عثمانیوں کو مل گئے تھے، مگر مملوکوں کی عسکری ذات 1226/1811 میں محمد علی کے ہاتھوں اپنے خاتمے تک مصر پر حقیقی معنوں میں مختار کل رہی۔

مملوک عہد حکومت میں مصر اور شام نے خوش حالی اور ثقافتی و تہذیبی و فوری کے دن دیکھے، اور فن تعمیر، ظروف سازی اور دھات کاری کے فنون میں اعلیٰ مہارتیں حاصل کی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شجاعت کے علوم کا آغاز مملوک عہد میں ہی ہوا۔ میڈی ٹرینین کی عیسائی طاقتوں کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات قائم کیے گئے؛ چنانچہ بھرس نے مشرق قریب میں ایک سخت گیر عیسائی مخالف پالیسی کے باوجود آراگون کے جیمز اول اور شاہ سلی، انجو کے چارلس کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے۔ افریقہ کی بحر پیائی کی پرتگیزی مہم ہی مملوکوں کی خوش حالی کے لیے خطرہ بنی جس کے نتیجے میں تجارتی راستے ان کے علاقوں سے پرے منتقل ہو گئے؛ انہیں خدشات کے پیش نظر قسوح نے عرب کے ساحلوں پر فوجی مقامات حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے بحری بیڑوں کو بحیرہ ہند میں ڈال کر پرتگیزیوں کو ہندوستانی سمندروں میں پہنچنے سے روک سکے۔

## 27- محمد علی کا سلسلہ (1220-1372/1805-1953)

مصر	
محمد علی پاشا	1220/1805
ابراہیم پاشا	1264/1848
عباس اول پاشا	1264/1848
سعید پاشا	1270/1854

اسماعیل (1284/1867 میں Khedive)	1280/1863
لقب اختیار کیا	
توفیق	1296/1879
عباس دوم حلمی	1309/1892
حسین کامل (سلطان کا لقب اختیار کیا)	1333/1914
احمد فواد اول (1340/1922 میں شاہ کا	1335/1917
لقب اختیار کیا)	
فاروق	1355/1936
فواد دوم	1371-72/1952-53

### ری پبلیکن حکومت کا قیام

محمد علی (1849-1849/1769-1265-1182) عثمانی فوج میں ایک ترک سپاہی تھا۔ وہ فرانسیسیوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے بھیجی گئی ترک فوج کے ساتھ مصر آیا اور وہاں ملک کے حاکم مطلق کے طور پر قیام کیا، سلطان کو مجبور کیا کہ وہ اسے گورنر یا پاشا تسلیم کرے، اور سرکاسی مملوکوں کے پرانے حکمران طبقے سے نجات حاصل کی۔ محمد علی کی اصل وجہ شہرت اس کی جانب سے یہ تسلیم کرنا تھا کہ اس کا صوبہ مصر بھی ترقی کر سکتا ہے جب مغرب میں اختیار کردہ ٹیکنیکی دریافتیں، عسکری طور طریقے اور تعلیمی نظام وہاں بھی متعارف کروائے جائیں۔ چنانچہ اسے اس کے ہم عصر عثمانی سلاطین سلیم سوم اور محمد دوم کی صف میں کھڑا کیا جاسکتا ہے، کیونکہ وہ بھی مشرق وسطیٰ میں مغربی طور طریقے متعارف کروانے والے اولین افراد میں شامل ہے۔ اب ایک نئی تیار کی گئی فوج کو سوڈان کی سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا جہاں سے غلاموں کی بہت بڑی تعداد حاصل ہو سکتی تھی۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جن میں یورپی عملہ اور مشیر اپنے فرائض سرانجام دیتے تھے؛ مالیاتی پالیسی میں ترمیم کر کے اسے مالیہ کی بڑھتی ہوئی مانگ کے مطابق بنایا گیا۔ بیرونی لحاظ سے محمد علی اور اس کے قابل بیٹے ابراہیم نے یونانی جنگ آزادی میں مداخلت کی، اپنی خود مختاری کو استنبول میں سلطان کے برابر رکھا اور وسطی عرب کے وہابی حکمرانوں کے ساتھ کئی غیر فیصلہ کن جنگیں لڑیں۔

محمد علی کا دور حکومت ختم ہونے پر مصر پر قرضے کا بوجھ پڑ چکا تھا اور یورپی بادشاہوں کی شان و شوکت کی نقالی کرنے کی خواہش نے اس میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ اپنی نسل میں سب سے پہلا آدمی تھا جس نے سلطان سے قدیم ایرانی خطاب Khedive حاصل کیا اور اپنی اولادوں کی موروثی جانشینی کا وعدہ بھی لیا۔ یہ دونوں چیزیں اس سلسلہ نسل کی حقیقی خود مختاری کی غماز ہیں۔ اسماعیل کے دور میں ہی نہر سوئز پر کاکھل ہوا، لیکن سامراجی مصر کی ایتھوپیا اور سوڈان میں مہم جونیوں نے مصر کے معاشی استحکام کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ خود ترکی کی طرح مصر بھی اب یورپی قرض خواہ اقوام کے کنٹرول میں آ گیا تھا؛ اور 1299/1882 میں عراقی پاشا کی بغاوت کے بعد برطانیہ نے مصری مالیات کا انتظام سنبھال لیا اور وہاں ایک مستقل گیریشن تعینات کر دیا۔ برطانیہ کا یہ تحفظ کے نام پر قبضہ کہیں 1340/1922 میں ہی آ کر ختم ہوا۔

سلطنت کے آخری دو قابل ذکر ارکان فواد اور فاروق کے ادوار حکومت داخلی طور پر زیادہ تر وفد کی اکثریتی سیاسی جماعت، اور خارجی طور پر برٹش کنٹرول کی باقیات کا اکھیڑ پھینکنے کی جدوجہد سے عبارت تھے۔ سلطنت کے اختتام سے کچھ ہی پہلے نحاس پاشا سے سوڈان کے معاملے پر ”کوئٹہ مینیم معاہدہ“ کیا اور فاروق کے مصر اور سوڈان کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا، بالخصوص 1948ء کے عرب اسرائیل تنازع کے بعد۔ سلطنت نے کبھی بھی خود کو حقیقی معنوں میں عرب محسوس نہیں کیا، اور 1952ء میں فاروق کو اقتدار سے علیحدہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا؛ اور اگلے ہی برس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

## جزیرہ نما العرب

28- قرامطہ (11ویں صدی کا آخر-894/پانچویں صدی کا آخر-281)

مشرقی اور وسطی عرب، مرکزی مقام بحرین

ابوالسعید الحسن البجائی 281/894

ابوالقاسم سعید 300/913

ابوطاہر سلیمان 311/923

ابومنصور احمد 322/944

ابویعقوب یوسف 361-6/972-7

بوڑھوں کی مجلس شوریٰ کی حکومت

قرامطی یا قرامطی تحریک کی جڑیں انقلابی شیعہ ازم کے مسیحائی نظریات میں تھیں اور غالباً اس پر سب سے زیادہ اثر شامی اور عربی صحراؤں کے بدوؤں کے درمیان اسماعیلی پراپیگنڈا کا ہوا۔ دسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں زکریا نے شامی صحرا میں قرامطیوں کی بغاوت کی قیادت کی جسے 293/906 میں کچل دیا گیا۔ لیکن قرامطی سرگرمی کا سب سے بڑا مرکز عراق کے جنوب میں مشرقی عرب کے ساحلی خطے بحرین میں تھا۔ مقامی سماجی بے چینی اور زیریں عراق میں زنج یا کالے غلاموں کی بغاوت کے بعد پیدا ہونے والے افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرامطہ نے ایک زبردست، معاشی اعتبار سے خوش حال اور پائیدار ریاست تعمیر کی۔ قرامطی بانی کی خاصی مبہم شخصیت داعی ابوسعید نے اس جاگیر کو تعمیر کیا تھا اور تقریباً ایک صدی بعد بحرین کے قرامطہ بدستور ابوسعیدی کے عرف عام سے جانے جاتے تھے۔

جاگیر کی تنظیم کچھ حوالوں سے اشتراکی تھی: محصولات جمع کر کے برادری کے ارکان میں ان کی ضرورتوں کے مطابق تقسیم کیے جاتے، البتہ اس کی بنیاد غلام مزدوروں کی محنت پر رکھی گئی تھی۔

اسماعیلیت سے متاثر ہونے اور مذہب کی بیرونی صورتوں کے ساتھ تضاد کے رجحانات کے باعث قرامطیوں کے مذہبی دستور غیر رسمی تھے اور وہ بنیاد پرستوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ ابوسعید کی سلطنت نے جنگ اور سفارت کاری میں رہنماؤں کے طور پر کام کیا، اور برادری کے امور کی نگرانی ایک اقدانیہ یعنی بوڑھوں کی مجلس کرتی تھی۔

شمالی افریقہ میں اسماعیلی فاطمیوں کے ساتھ قرامطیوں کے تعلقات کی نوعیت واضح نہیں؛ موجودہ رجحان یہ ہے کہ دسویں صدی کے نصف اول میں دونوں تحریکوں کے شدید ایکشن کے امکان کو کم سے کم کیا جائے۔ قرامطیوں نے بحرین سے کوفہ کو لوٹا، حاجیوں کے قافلوں پر حملے کیے، اومان پر قبضہ کیا اور خانہ کعبہ سے حجر اسود اٹھا کر لے گئے کیونکہ وہ اس کے احترام کو توہم پرستی خیال کرتے تھے؛ تاہم اکیس برس بعد فاطمی خلیفہ کی درخواست پر انھوں نے حجر اسود واپس کر دیا۔ قرامطی ریاست ایک قسم کی جمہور یہ بن گئی اور گیارھویں صدی کے اختتام تک پھلتی پھولتی رہی۔ دو یا تین صدیوں بعد بھی بحرین میں قرامطی عقائد غالب رہے۔

## 29- یمن کے زیدی امام یارشی (Rassids)

- ابتدائی نویں صدی ۱ - ابتدائی تیسری صدی

مرکزی مقام صعدایا صعداً

### 1- ابتدائی دور (رشیوں سلسلہ)

ترجمان الدین القاسم الرشی، وفات 246/860	?
الحسین	246/860
یحییٰ الہادی الالحق اول	280/893
محمد الرضی	298/911
احمد الناصر	301/1914
الحسین الملقب	?
القاسم الختار	324/936



یوسف منصور الداعی	?
القاسم المنصور	?
الحسین المہدی	393/1003
جعفر	?
الحسن	426/1035
ابو الفتح الناصر الدیلمی	430/1039
صلیہ کا صغاً پر قبضہ	454/1062
صلیہ کوزرز	480/1087
صغاً میں حاتم بن الغشتم کی نسل کی حکومت	492/1099
احمد المتوکل	545/1150
حمدانی حکومت کی بحالی	556/1161
یمن پر ایویہوں کی فتح	569/1174
عبداللہ المنصور	594/1198
یحییٰ الہادی الاالحق دوم (صعدا میں)	614/1217
محمد الناصر (جنوبی اضلاع میں، 623/1226 تک)	614/1217
احمد المہدی الموطی	646/1248
شمس الدین احمد المتوکل	656/1258
داؤد المشخر	1281 اندازاً / 1680 اندازاً

## 2- جدید دور (قاسمی سلسلہ)

القاسم المنصور	1592 اندازاً / 1000 اندازاً
محمد المعید اول	1029/1620*
اسماعیل المتوکل	1054/1654
محمد المعید دوم	1087/1676

محمد الہادی	1092/1681
محمد المہدی	1097/1686
القاسم المتوکل	1128/1716
الحسین المنصور، پہلا دور حکومت	1139/1726
محمد الہادی الماجد (؟)	1139/1726
الحسین المنصور، دوسرا دور حکومت	1140/1728
العباس المہدی (؟)	1160/1747
علی المنصور	1177/اندازاً 1190 اندازاً
احمد المہدی (؟)	1221/1806
علی المنصور، دوسرا دور حکومت؟	?
القاسم المہدی	1257/1841
محمد یحییٰ	1261/1845
صعاً پر عثمانی قبضہ	1289/1872
حمید الدین یحییٰ	1308/1890
یحییٰ محمود المتوکل	1322/1904
سیف الاسلام احمد	1367/1948
محمد بدر	1382/1962

زیدی شیعہ فرقے کی ایک نسبتاً معتدل شاخ تھے جن کا کہنا تھا کہ حضرت محمد ﷺ نے حضرت علیؑ کو ان کے ذاتی کمالات کی بنا پر امت کا امام نامزد کیا تھا؛ اور یہ کہ محمد الباقر کی بجائے ان کے بھائی زید شیعوں کے پانچویں امام تھے جنہیں اموی خلیفہ ہشام کے دور میں شہید کر دیا گیا۔ بعد ازاں زید کی اولادوں اور حامیوں نے پراپیگنڈا کر کے ویلم اور بحیرہ کا سمین کے جنوب مغربی ساحلوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ خطہ ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کافی موزوں تھا۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی کونے میں خطہ یمن بھی عباسی خلفاء کے اختیار میں آنے کے

حوالے سے بہت دور تھا اور یہاں ترجمان الدین القاسم بن ابراہیم طباطبائی (حضرت امام حسنؑ ابن علیؑ کی اولاد) نے مامون کے عہد میں اقتدار سنبھالا۔ سلطنت کا نام ”رتی“ کا ماخذ جغرافیائی معلوم ہوتا ہے کیونکہ حجاز کی ایک جاگیر الرزس پر القاسم کا قبضہ تھا۔

چنانچہ رتی شمالی یمن میں صعدا کے مقام پر آباد ہوئے اور وہاں کے مقامی خارجیوں، قرامطیوں اور دیگر مخالفین کا مقابلہ کرتے رہے۔ انھوں نے صعدا کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ صعداً کو بھی اپنے قبضے میں کیا۔ اگلی صدی تک یمن زیدی دعوت یا مذہبی پراپیگنڈا کا مرکز بنا رہا۔ ان کے مبلغین کا یمن کے علاقوں اور اسلامی دنیا کے دوسرے خطوں میں جاتے تھے۔ یارھویں صدی کے نصف آخر میں سلہریوں نے صعداً لے لیا اور اگلی صدی میں یہاں بنو ہمدان پچاس برس کے لیے قابض ہو گئے؛ دسویں صدی کے امام احمد الناصر کی اولاد احمد المتوکل کے عہد میں ہی زیدیوں کی قسمت مختصر مدت کے لیے جاگی۔ 569/1174 میں یمن پر ایوبی تسخیر نے اماموں کی حاکمیت کو کافی حد تک محدود کر دیا، وہ رسولی عہد میں کچھ بحال ہوئے، اور آخر کار داخلی جھگڑوں اور سماجی بے چینی نے یمن میں ان کی طاقت کو گہنا دیا۔

اس دور کے بعد متعدد اماموں کے نام ہمیں معلوم ہیں لیکن لگتا ہے کہ امامت کا سلسلہ بار بار حسنی سلسلوں اور مخالف دعویداروں کی وجہ سے منقطع ہوتا رہا۔ 923/1517 سے 1045/1635 تک یمن عثمانی ترکوں کے پاس رہا؛ سولہویں صدی میں ترک حکام ایک سے زائد امام کو اٹھا کر استنبول لے گئے۔ یمن اور صعداً سے ترکوں کے جانے پر وہاں دوبارہ زیدی آ گئے؛ اور رتی امام یوسف المنصور الداعی کی نسل کے اماموں کے ایک تازہ سلسلے نے حکومت کرنا شروع کر دی۔ یہی سلسلہ یمن میں آج تک مستقل طور پر موجود ہے، البتہ 1289/1872 سے 1308/1890 تک صعداً پر عثمانی قبضہ رہا۔

30- صلحی (439-532/1047-1138)

یمن

علی بن محمد

439/1047

المکرم احمد بن علی	459/1067
المکرم الاصغر علی بن احمد بن السیدہ عروہ کی مطلق	477/1084
المظفر	
حکومت	
المصور سہا بن احمد بن المظفر کے ماتحت	1091 اندازاً/484 اندازاً
السیدہ عروہ	492-532/1099-1138

ذریوں یا عدن کے بنو الکرم کا اقتدار

ابتدائی عرب فتوحات کے بعد جزیرہ نما عرب سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے ابھر کر سامنے آیا۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یمن عراق میں عباسی خلفا سے دوری کے باعث جلد ہی شیعہ ازم، بالخصوص زیدیوں کا مرکز بن گیا۔ یہ اسماعیلی شیعہ ازم کے پراپیگنڈا کے لیے بھی ایک زرخیز میدان تھا، اور جب ایک مرتبہ فاطمیوں نے دسویں صدی کے اختتام پر مصر میں اپنے قدم جما لیے، اور حجاز کے مقامات مقدسہ نے فاطمی خلفا کو تسلیم کر لیا تو مصر اور یمن کے مابین تعلقات قریبی ہو گئے۔

صلیحیوں نے اسماعیلی دعوت کے ماننے والوں اور فاطمیوں کے باجگزاروں کی حیثیت میں یمن پر حکومت کی۔ ہمدان کے ایک جنوبی عربی قبیلے کا رکن اور مقامی قاضی کا بیٹا علی بن محمد یمن میں مرکزی فاطمی داعی سلیمان الزواحی کا نائب بنا، اور اس نے پہاڑوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس نے تہامہ یا ساحلی علاقوں کے نجاحیوں کی ابائی سنی غلام سلطنت شکست دی، 455/1063 میں زیدی اماموں سے صعاً چھینا اور حجاز پر حملہ کیا؛ اگلے ہی برس بنو معن کو عدن سے نکال باہر کیا۔ اس کے بیٹے المکرم احمد کے دور میں صلحی علاقے اپنی زیادہ سے زیادہ وسعت کو پہنچے، تاہم یہ فتوحات یارھویں صدی کے باعث قائم نہ رہ سکیں۔ نجاحیوں کی بحالی ہوئی اور زیدی امام صعاً کے شمال میں بدستور موجود رہے۔ احمد کی حکومت کے نصف آخر سے لے کر 532/1138 میں اس کے وفات تک اس کی بیوی ملکہ السیدہ عروہ موثر انداز میں حاکمیت چلاتی رہی جس نے صلحی دارالحکومت کو صعاً سے دہو جبل منتقل کر دیا۔ اواخر میں اقتدار ڈریوں کو مل گیا جنہوں نے 569/1174 میں ایوبی توران شاہ کی آمد تک حکومت کی۔ تاہم مخالف صلحی بادشاہ بارہویں صدی کے اختتام تک یمن میں قلعوں میں ڈٹے رہے۔

## 31- رسولی (626-858/1229-1454)

یمن

الملك المنصور نور الدين عمر اول	626/1229
الملك المنظر شمس الدين يوسف اول	647/1250
الملك الاشرف محمد الدين عمر دوم	694/1295
الملك المعيد بنبر الدين داؤد	696/1296
الملك المجاهد سيف الدين على	721/1322
الملك الافضال درغام الدين العباس	764/1363
الملك الاشرف محمد الدين اسماعيل اول	778/1377
الملك الناصر صلاح الدين احمد	803/1400
الملك المنصور عبداللہ	827/1424
الملك الاشرف اسماعيل دوم	830/1427
الملك الظاہر یحییٰ	831/1428
الملك الاشرف اسماعيل سوم	842/1439
الملك المنظر يوسف دوم	845/1442
اہتری کا دور، جس میں تخت کے چار متحارب دعویٰ دار موجود تھے، حتیٰ کہ 858/1454 میں ظاہریوں کو اقتدار مل گیا۔	846-58/1442-54

569/1174 میں یمن کو ایوبی توران شاہ (صلاح الدین کے بھائی) نے فتح کیا اور وہاں ایوبی بادشاہ 626/1229 تک حکومت کرتے رہے۔ آخر کار ملک اکامل کے بیٹے صلاح الدین یوسف کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے جانشینوں، رسولیوں نے یمن میں ایوبی پالیسی جاری رکھی اور شیعہ روایت کے حامل اس خطے میں ایک سنی اسلام کے مقاصد کو فروغ دیا۔ اگرچہ رسولیوں کا مورخ الخزر جی رسول کا شجرہ جنوبی عرب کے جد امجد قحطان سے جوڑتا ہے، لیکن

درحقیقت وہ اوغوز نسل کا ایک ترکمان تھا جسے عباسی خلیفہ نے اپنی (رسول) مقرر کیا تھا اور سلطنت کی تاریخ میں متعدد ترک خصوصیات بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

رسول کے پوتا الملک المنصور عمر نے ساحلی علاقے میں زبید کو اپنا صدر مقام مقرر کیا لیکن پہاڑوں تک گیا اور تبر اور صنعا کو زیدی اماموں سے چھین لیا۔ اس نے مکہ پر بھی قبضہ کیا اور اس کی سلطنت حجاز سے لے کر حضرموت تک پھیل گئی؛ یوں رسولیوں کا اقتدار مسلم دنیا میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل بن گیا۔ یمن سے ایک سفارت چین بھیجے جانے کا ریکارڈ موجود ہے۔ بلاشبہ اس اقدام کی وجہ مشرق بعید کے ساتھ حضرموت کے تجارتی روابط تھے۔ نیز ایویوں اور مملوک مصر کے ساتھ رسولیوں کے ثقافتی اور سیاسی تعلقات بدستور مستحکم رہے۔ بعد ازاں رسولیوں نے کوہستانی علاقے کے اندرون میں اپنا قبضہ قائم رکھنا مشکل پایا، اور 827/1424 میں الملک الناصر احمد کے وفات کے بعد داخلی پھوٹ اور انتشار پیدا ہوا جسے رسولیوں کی غلام افواج کی بغاوتوں اور طاعون کے وبائے نے اور بھی زیادہ شدید بنا دیا۔ انجام کار آخری رسولی الملک المسعود نج اور عدن کے سنی طاہریوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور سولہویں صدی کی ابتدا میں عثمانی تخیر تک یمن کا زیادہ تر حصہ طاہریوں کے پاس ہی رہا۔

### 32- آل بوسعید، مسقط اور اس کے بعد زوزی بار کا سلطان

(1154- /1741)

اومان اور زوزی بار

#### 1- متحدہ سلطنت

احمد بن سعید	?1163/1749
سعید بن احمد	1198/1783
حامد بن سعید	?1200/?1786
سلطان بن احمد	1206/1792
سلیم بن سلطان	1220/1806

سعد بن سلطان 1220/1806  
سعد کی وفات پر سلطنت کی تقسیم

### 2- اومان

تھونی بن سعید	1273/1856
سلیم بن تھونی	1282/1866
اذان بن قیس	1285/1868
ترکی بن سعید	1287/1870
فیصل بن ترکی	1305/1888
تیور بن فیصل	1331/1913
سعد بن تیور	1350- /1932-

### 3- زیزی بار

ماجد بن سعید	1273/1856
برغش بن سعید	1287/1870
خلیفہ بن برغش	1305/1888
علی بن سعید	1307/1890
حامد	1310/1893
حماد	1314/1896
علی بن حمود	1320/1902
خلیفہ	1329/1911
عبداللہ بن خلیفہ	1380-3/1960-3
جمشید بن عبداللہ	1383/1963-4

جمہوریہ تنزانیہ میں انقلاب اور الحاق

بوسعیدی اومان اور مشرقی افریقہ کی ساحلی زمینوں میں بحر بی اماموں کے سلسلے کی وراثت کے



جانشین بنے۔ احمد بن سعید نے اومان میں صوحار کے گورنر کے طور پر آغاز کیا اور پھر سارے خطے کا مالک بن بیٹھا۔ اس نے غالباً 1163/1749 میں (عبادیوں کے) امام کا لقب اختیار کیا، لیکن اس کا بیٹا سعید یہ لقب استعمال کرنے والا آخری شخص تھا۔ بعد کے حکمرانوں نے خود کو صرف سید یا غیر ملکیوں کے سلطان کہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ انجام کار مسقط بوسعید یوں کا دار الحکومت بنا۔ مسقط طویل عرصہ سے بین الاقوامی اہمیت کی حامل بندرگاہ تھا اور اس نے خلیج فارس پر تجارتی کنٹرول کے سلسلے میں پرتگیزیوں اور اس کے بعد ڈچ کی جدوجہد میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ سید سلطان (1206-20/1792-1806) نے جزائر بحرین، بندر عباس، ہورمز، کشم اور فارس کے جنوبی ساحلوں تک ایک توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل کیا۔ تاہم ابتدائی انیسویں صدی کے دوران سیدوں کی پوزیشن نجد کے جارحیت پسند وہابیوں کے باعث کمزور ہو گئی؛ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کر کے اس خطرے کا مقابلہ کیا۔ برطانیہ کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ ہندوستان کے راستے کے قریب واقع مسقط دوستوں کے پاس رہے۔ 1212/1798 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا گیا، اور پھر کمپنی کے ایجنٹس کو مسقط میں رکھا گیا؛ انیسویں صدی کے بعد کے عشروں میں برطانیہ نے خلیج میں غلاموں کی تجارت کنٹرول اور پھر ختم کرنے کے لیے مسقط پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔

مشرقی افریقی ساحل پر پھر بی مقبوضات اٹھارہویں صدی کے اواخر میں فارس کے ساتھ جنگوں میں ہاتھ سے نکل گئی تھیں، اور صرف زنجی بار، عہما، اور کلو ای بوسعید یوں کے پاس رہ گئے۔ لیکن سعید بن سلطان نے اپنے طویل دور حکومت میں شمال میں موگادیشو سے لے کر جنوب میں کیپ دیلگا دو تک تمام عرب اور سواحلی کالونیوں کو اپنے اختیار میں کر لیا۔ 1273/1856 میں اس کے وفات کے بعد بوسعیدی مقبوضات کو دو الگ الگ سلطنتوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن کی بنیاد مسقط اور زنجی بار پر تھی۔ 1307/1890 میں جزائر زنجی بار اور عہما برطانوی حفاظت میں آ گئے؛ سلطنت نے دسمبر 1963ء میں ایک مرتبہ پھر آزادی حاصل کی، لیکن جنوری 1964ء میں ایک سازش نے سلطان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اپریل 1964ء میں زنجی بار جمہوریہ تنزانیہ میں تانگانیکا کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ جہاں تک اومان کا تعلق ہے تو 1319ء کے بعد سے

اندرونی علاقے میں علیحدگی پسند تحریک اس کو سیاسی لحاظ سے پریشان کرتی رہی۔ مصران ناراض دھڑوں کے موجودہ امام غالب کو رقم فراہم کرتا رہا، اور 1957ء میں اس نے مسقط میں سلطان کے خلاف ایک مسلح تحریک چلانے کی کوشش کی۔

### 33- آل سعود یا وہابیہ (1746- / 1159-)

#### شمالی اور مشرقی عرب

محمد بن سعود	1159/1746
عبدالعزیز اول	1179/1765
سعود بن عبدالعزیز	1218/1803
عبداللہ اول بن سعود	1229/1814
عثمانی ترکی قبضہ	1233-8/1818-22
ترکی	1238/1823
فیصل اول، پہلا دور حکومت	1249/1834
خالد بن سعود	1253/1837
عبداللہ دوم بن تھنیاں (مصر کے محمد علی کے باگزار کے طور پر)	1257/1841
فیصل اول، دوسرا دور حکومت	1259/1843
عبداللہ سوم بن فیصل، پہلا دور حکومت	1282/1865
سعود بن فیصل	1287/1871
عبداللہ سوم، دوسرا دور حکومت	1291/1874
حائل کے محمد بن رشید کی فتح، عبداللہ بدستور 1307/1889 تک ریاض کا گورنر رہا۔	1305/1887
عبدالرحمان بن فیصل، ریاض میں بطور گورنر	1307/1889

محمد بن فیصل مطوی، رشیدیوں کے ماتحت گورنر	1308/1891
کے طور پر	
عبدالعزیز دوم	1319/1902
سعود	1373/1953
فیصل دوم	1384/1964

وہابیہ کا آغاز وسطی عرب یا نجد میں ایک مذہبی اور اصلاحی مذہبی تحریک کے طور پر ہوا۔ اس کا بانی محمد الوہاب (وفات 1206/1791) تھا جس کے عقائد نجد کی مقامی تاریخ عنوان المجد فی تاریخ نجد از عثمان عبداللہ میں محفوظ ہیں۔ ان عقائد کو دیکھنے پر وہ احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کے شدید شریعت پسندانہ دینی خیالات کا پیروکار نظر آتا ہے۔ خدا کی یگانگت اور ماورائیت پر زور دیا گیا ہے، اور کافرانہ اجتہادات یا بدع سے شدید نفرت ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مقبول عام بزرگ پرستی اور مقامات کو مقدس قرار دے کر ان کی عبادت کرنے کے خلاف رویہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ جب وہابیہ نے عرب میں سیاسی اور عسکری طاقت حاصل کی تو انہوں نے بڑے منظم انداز میں صوفیاء کے مقبرے وغیرہ مسمار کر دیے۔

محمد بن عبدالوہاب درعیہ کے نجدی سردار محمد بن سعود کی حفاظت میں تھا، اور اس کا اصلاحی جذبہ سعودی خاندان کی سیاسی توسیع میں کارفرما بنیادی قوت بن گیا۔ اٹھارہویں صدی کے اختتام تک سارے کا سارا نجد فتح ہو گیا تھا اور عراق پر حملے کیے جا رہے تھے۔ انجام کار وہابیوں نے 1218/1803 میں شیعوں کے مرکز کربلا میں غارت گری کی؛ اور حجاز کے مقدس شہروں کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کے جواب میں عثمانیوں کا طیش میں آنا فطری بات تھی اور سلطان نے مصر کے گورنر محمد علی کو وہابیوں سے نمٹنے کا اختیار دیا؛ 1233/1818 میں محمد علی کے بیٹے ابراہیم نے درعیہ پر قبضہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی، سعودی امیر کو استنبول جانے پر مجبور کیا اور حجاز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ترکی اور فیصل اول کے دور میں وہابیوں نے کچھ حد تک دوبارہ قوت حاصل کی لیکن اس کے بعد انیسویں صدی کے آخری برسوں میں حاکمی کے دشمن رشیدی خاندان سے مغلوب ہوئے اور سعودی کویت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بیسویں صدی میں خاندان کی دوبارہ

سرفرازی کا تعلق عبدالعزیز بن سعود کی عظیم شخصیت کے ساتھ ہے۔ اس نے الرشید کا تختہ الٹا (جس نے پہلی عالمی جنگ میں ترک عزائم کی حمایت کی تھی)، شریف حسین کو مکہ میں خلیفہ کے طور پر پیر جمانے سے روکا، اور 1930ء میں خود حجاز اور نجد کے بادشاہ کے طور پر مکہ میں تخت نشین ہو گیا۔ یوں جدید سعودی بادشاہت وجود میں آئی۔

پانچواں حصہ

ایرانی دنیا اور سلجوقوں سے پہلے کا کاشیا

34-باوندی (1349-665-750-45)

کاشین سواحل

1- کاؤسیہ کی نسل (طبرستان)

باو	45/665
ولاش کی مختصر حکومت کا عرصہ	60/680
سرخاب اول	68/688
مہر مردان	98/717
سرخاب دوم	138/755
شروین اول	155/772
شہریار اول	181/797
شاہپور یا جعفر	210/825
قارن اول	222/837
رستم اول	253/867
شروین دوم	282/895
شہریار دوم	318/930
رستم دوم	?
دارا	355/966
شہریار سوم	358/969
رستم سوم	396/1006

قارن دوم

449-66/1057-74

## 2- اسپ بدیہ کی نسل (طبرستان اور گیلان)

حسام الدولہ شہریار	466/1074
نجم الدولہ قارن	503/1110
شمس الملوک رستم	511/1117
علاؤ الدولہ علی	511/1118
شاہ غازی رستم اول	534/1140
علاؤ الدولہ یا شرف الملوک	558/1163
حسام الدولہ اردشیر	567/1172
ناصر الدولہ یا شمس الملوک شاہ غازی رستم دوم	602-6/1206-10

## 3- کینکھواریہ کی نسل (منگولوں کے باجگزار)

حسام الدولہ اردشیر	635/1238
شمس الملوک محمد	647/1249
علاؤ الدولہ علی	665/1267
تاج الدولہ یزدگرد	675/1276
ناصر الدولہ شہریار	698/1299
رکن الدولہ کنخسرو	714/1314
شرف الملوک	728/1328
فخر الدولہ حسن	734-50/1334-49

افراسیاب خاندان مازندرن میں اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے  
گیلان اور طبرستان کی ساحلی زمینیں اور کوہستانی علاقے کوہ البرز کے حصار کی حفاظت میں  
ہونے کے ناطے ہمیشہ سے ہی لوگوں اور خیالات کی جائے پناہ رہے ہیں۔ وہاں مختلف نسلوں کی  
شاخیں، غیر مقبول مذہبی عقائد، زبانیں، رسم الخط اور سماجی دستور فارس کے نسبتاً زیادہ قابل رسائی

حصوں کے مقابلے میں بہت طویل عرصہ تک موجود رہے۔ فارس میں اسلام کی آمد کے کئی سو سال بعد بھی ان خطوں نے مختلف چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو جگہ دی جن کی جڑیں ساسانی ماضی میں تھیں؛ اس میں سے ایک بادشاہی صفوی شاہپ عباس اول کے عہد تک موجود رہی (یعنی سولہویں صدی کے اختتام تک)، جب سلسلے کا خاتمہ کر کے اسے باقی کے فارس سمیت کاسپین صوبوں کا حصہ بنا لیا گیا۔

ان مقامی ایرانی سلطنتوں میں سے اہم ترین غالباً طبرستان (جسے گیارہویں صدی سے عموماً مازندران کہا جاتا تھا) کے باوندی تھے، جنہیں بارہویں صدی کے حالات نے فارس سے باہر کھیل کھیلنے کی اجازت دی۔ 700 برس بعد ال خانی ادوار تک اس سلطنت کا باقی رہنا ہم پر واضح کرتا ہے کہ خطے کی الگ تھلگ حیثیت نے کس طرح خاندان کا تسلسل ممکن بنایا جو کہ مسلم دنیا میں بے نظیر ہے۔ باوندی حکمرانوں نے ایرانی لقب اسپہد یعنی عسکری رہنما اختیار کیا تھا اور اکثر انھیں ملوک الببال یعنی پہاڑوں کے بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی میدانوں میں شکست دے دوچار ہوتے تو بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جاتے۔

پہلا سلسلہ کاؤسیہ دسویں صدی میں بیونیوں اور زیاریوں کے ساتھ بذریعہ شادی منسلک تھے اور بعد میں زیاری قابوس بن وشمگیر کے اختیار میں آ گئے، لیکن اگلی صدی میں جب سلجوقوں نے کاسپین کے ساحلی علاقوں پر حملہ کیا تو وہ تب بھی پہاڑوں میں موجود تھے۔ آئندہ برسوں میں باوندیوں کے دوسرے یا اسپہد یہ سلسلے نے کامیابی کے ساتھ عظیم سلجوقوں کو طبرستان پر براہ راست حاکمیت جمانے سے روکا؛ انھوں نے سلجوقی تخت کے متعدد دعویداروں کو پناہ دی اور کئی اعلیٰ سلجوقوں کے ساتھ شادیاں کیں۔ سلجوقوں کے انحطاط نے شاہ غازی رستم اول کو شمالی فارس کی سیاسیات میں ایک اہم حیثیت اختیار کرنے کے قابل بنایا؛ اس نے ایک آزادانہ پالیسی لاگو کی جس کا مطلق نظر اپنی جاگیر کو البرز جنوب کی جانب کی جانب وسعت دینا تھا۔ تاہم، البرز کے اسماعیلیوں اور اس کے بعد خوارزم شاہان کے دباؤ نے اس سلسلے کے 606/1210 میں انجام تک پہنچایا اور مازندران مختصر عرصہ کے لیے خوارزمی کنٹرول میں چلا گیا۔ اس کے باوجود شورش پسند باوندی دوبارہ نمودار ہوئے اور تیسرا سلسلہ کنکھوار یہ شروع کیا۔ انھوں نے منگولوں کے ہاتھ لڑائیوں کے طور پر



حکومت کی؛ آخر کار 750/1349 میں ایک اور مقامی مازندرانی خاندان (کیا افراسیاب چلابی) نے ان کا تختہ الٹا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔

### 35- مسافری یا سلاری یا کنگری (1090-916/483-304 اندازاً)

دہلم اور آذربایجان

محمد بن مسافر، دہلم میں طاروم کا حکمران	304/916 سے قبل
مرزوبان اول بن محمد (آذربایجان اور اران میں)	330/941
وہسودان بن محمد (طاروم میں)	330/941
جستان اول بن مرزوبان (آذربایجان میں)	346/957
ابراہیم اول بن مرزوبان (آذربایجان میں، 373/983 میں اپنی وفات تک)	349/960
مرزوبان دوم بن اسماعیل بن وہسودان (طاروم میں 374/984 تک)	355/966
ابراہیم دوم بن مرزوبان دوم (طاروم میں دوبارہ مسند نشین ہوا اور 420/1029 تک زندہ رہا)	387/997
جستان دوم بن ابراہیم (437/1045 تک حکومت کی)	?
مسافر بن ابراہیم (454/1062 تک حکومت کی)	?

الموت کے اسماعیلیوں کے ہاتھوں سلطنت کا خاتمہ

شمال مغرب فارس کی تاریخ آذربایجان کے ساجدیوں اور دربند کے یزیدیوں (بعد کے شیروان شاہی) جیسے عرب گورنروں اور آتے ہوئے ترک سلجوقوں کے درمیانی وقفے میں مقامی ایرانی باشندوں کی شورش انگیزی سے ہی عہارت ہے۔ دیلمی زیاریوں اور بویہوں نے مغربی اور

جنوبی فارس کی زرخیز زمینیں حاصل کرنے کی کوششیں کیں جبکہ دیلمی مسافریوں نے شمال کی جانب آذربائیجان میں وسعت اختیار کی جہاں ساجدیوں کے خاتمے نے اقتدار کا بحران پیدا کر دیا تھا۔ مسافریوں کے لیے اکثر سلاویوں کا نام بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی محقق کسروی کا یہ دعویٰ کافی حد تک درست ہے کہ خاندان کا اصل نام کنگری تھا۔

محمد بن مسافر (غالباً فارسی کے اسفار/اسوار سے مشتق) دیلم میں طاروم اور سمیران کے اہم قلعوں پر قابض تھا، اور انھی کی وجہ سے اس نے دیلم کی پرانی سلطنت جتانی کی قیمت پر اپنی طاقت کو فروغ دیا۔ 330/941 میں محمد کی وفات کے بعد خاندان کچھ عرصہ تک دو شاخوں میں بٹا رہا۔ ایک شاخ کا سردار و مسودان دیلم میں ہی رہا جبکہ دوسری شاخ اس کے بھائی مرزوبان کی قیادت میں شمال اور مغرب کی جانب آذربائیجان اور اران، اور حتیٰ کہ دربند (کاسپین کے ساحل پر) کی جانب چلی گئی۔ تاہم یہ موخر الذکر شاخ تہریز کے روادیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا سامنا نہ کر سکی اور آذربائیجان میں آخری مسافری علاقے 374/984 میں ہاتھ سے نکل گئے۔ نیز طاروم شاخ پر رے کے بیوٹی فخر الدولہ نے شدید دباؤ ڈالا اور وہ ایک موقع پر تو سمیران بھی اس کے ہاتھوں میں دے بیٹھے۔ اس کی موت کے بعد ان کی قسمت پھر جاگ اٹھی اور وہ دیلم کے مغرب میں واقع زنجان اور دیگر شہر قبضے میں لینے کے قابل ہو گئے۔ لیکن سلطنت اب انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ ابراہیم دوم بن مرزوبان کو 420/1029 میں غزنویوں نے مختصر عرصہ کے لیے بیدخل کیا۔ بعد میں خاندان سلجوق طغرل بیک کا باجگزار بن گیا۔ اس کے بعد صرف خاموشی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ قرین قیاس ہے کہ آخری گننام مسافریوں کا خاتمہ الموت کے جارحیت پسند اسماعیلیوں نے کیا۔

36- رواوی (1071-ابتدائی دسویں صدی/463-ابتدائی چوتھی صدی)

آذربائیجان

محمد بن حسین الروادی ?

حسین اول بن محمد 340/951 اندازاً

ابوالہیجا/ابوالہامچہ مملان اول یا محمد ?

ابولہر حسین دوم بن مملان	391/1000
وہسودان بن مملان	416/1025
مملان دوم بن وہسودان	451/1059
آذربيجان پر سلجوقوں کا قبضہ	463/1071
احمدیل بن ابراہیم بن وہسودان (وفات	?
510/1116 میں مراگھا کے مقام پر)	

### مراگھا کے احمدیلی اتابیگ

شمالی فارس کے ایرانی عوام میں دسویں صدی کے دوران ہونے والی شورش انگیزی میں دیلمی اگرچہ اس سے زیادہ نمایاں تھے لیکن دیگر نسلوں کا کردار بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کے شدادی غالباً کرد النسل تھے، جبکہ تمریز اور آذربيجان کے روادیوں کو دسویں صدی میں کردی ہی سمجھا جاتا تھا۔ درحقیقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاندان اصل میں یمنی قبیلے ازد سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی عباسی عہد میں روادی خاندان کے ارکان تمریز کے حاکم رہ چکے تھے، لیکن بعد کے تقریباً ایک سو برسوں میں خاندان کھل طور پر کردی رنگ میں رنگا گیا، مملان اور احمدیل جیسے نام اصل میں عربی ناموں محمد اور احمد کی ہی بگڑی ہوئی کردی صورت ہیں۔

اپنے مسافری پڑوسیوں کی مانند روادیوں نے بھی ساجدیوں سے پہلے کی گڑبڑ سے فائدہ اٹھایا۔ بیونیوں کی جانب سے مدد کے باوجود مسافریوں کی آذربيجان چلی جانے والی شاخ کو ابو الہیجا مملان نے آہستہ آہستہ باہر نکال دیا، یوں 374/984 تک آتے آتے سارا خطہ روادیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ گیارہویں صدی میں سلطنت کا نہایت غیر معمولی رکن وہسودان بن مملان تھا۔ اس کردی پڑوسیوں کی معاونت سے اوغوز ترکمانوں کے اولین ہلوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا، لیکن 446/1054 میں طغرل کی اطاعت قبول کر لی۔ بعد ازاں سلجوقوں نے سلجوقوں کے باجگواروں کے طور پر حکومت کی، حتیٰ کہ 463/1070 میں الپ ارسلان اناطولیہ میں اپنی مہم سے واپس آیا اور مملان بن وہسودان کو معزول کیا۔ تاہم اس کے بعد بھی ہمیں خاندان کے کم از کم ایک رکن کا پتہ ملتا ہے جسے احمدیل کے طور پر جانا جاتا ہے اور جس کا نام اس کے ترک غلاموں

(احمدیوں) کے سلسلے میں قائم و دائم رہا۔

## 37- شدادی (1174-1651/571-340 اندازاً)

اران اور مشرقی آرمینیا

## 1- گنج اور دوین میں مرکزی نسل

محمد بن شداد (دوین میں)	340/951 اندازاً
علی لشکری اول بن محمد (گنج میں)	360/971
مرزوبان بن محمد	368/978
فضل اول بن محمد	375/985
ابو الفتح موسیٰ	422/1031
علی لشکری دوم	425/1034
انوشیرواں بن لشکری	440/1049
ابوالاسوار شلار اول بن فضل (413/1022 سے	441/1049
دوین اور 441/1049 سے گنج میں)	
فضل دوم بن شلار	459/1067
فضل سوم (فضلون) بن فضل	466-8/1073-75

اران پر سلجوق جنرل سوتگین کا قبضہ

## 2- آنی شاخ

منوچہر بن شلار اول	465/1072 اندازاً
ابوالاسوار شلار دوم	512/1118 اندازاً
جار جیائی قبضہ	518/1124
فضل چہارم (فضلون) بن شلار	519/1125 اندازاً
محمود	?
خوشخیز	525/1131 اندازاً

شداد	?
فضل پنجم	550/1155
جارجیائی قبضہ	556/1161
شہنشاہ	559-71/1164-74

### جارجیائی قبضہ

شدادیوں کا شمار بھی انھی سلطنتوں میں ہوتا ہے جو دلیلی وقفے کے دوران شمالی فارس میں ابھریں، اور یہ بات قرین قیاس ہے کہ وہ کردی النسل تھے۔ ایرانی دنیا کا شمال مغربی کنارہ اور ملحقہ کاکیشیا کا علاقہ زیادہ تر ریکارڈ کی ہوئی تاریخ کے دوران نسلی اور زبانی اعتبار سے نہایت گڑبڑ کا شکار رہا ہے۔ شدادیوں کو آذربائیجان کے دیلمیوں اور دوسری طرف عیسائی آرمینیوں و جارجیوں کے مابین اپنی جگہ بنانے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے شدادی شجرہ نسب میں دلیلی نام مثلاً لشکری اور آرمیائی نام مثلاً اشوت ملتے ہیں۔

دسویں صدی کے درمیانی برسوں میں کردی مہم جو محمد بن شداد نے خود کو دیون کے مقام پر قائم کیا۔ اس دور میں یہ شہر مسافریوں کے قبضے میں تھا۔ بازنطینی مدد حاصل کرنے کی ایک کوشش کے باوجود محمد دیلمیوں کو دیون کے دوبارہ حصول سے نہ روک پایا، لیکن 360/971 میں اس کے بیٹوں نے کامیابی کے ساتھ مسافریوں کو اران میں گنج سے باہر نکالا۔ اس کے بعد گنج ایک سو سال تک شدادیوں کی مرکزی نسل کا دار الحکومت بنا رہا۔ اب انھوں نے جوش و جذبے کے ساتھ اس خطے میں اسلام کا دفاع شروع کیا اور جارجیائی بگرتدیوں، مختلف آرمیائی بادشاہوں، بازنطینیوں وغیرہ کے ساتھ لڑے۔ بالخصوص شدادیوں میں سب سے زیادہ نمایاں ابوالاسوار شاد راول نے عقیدے کے مجاہد کے طور پر اس دور میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ جب سلجوق کاکیشیا کے علاقہ میں داخل ہوئے تو شدادیوں نے طغرل اور سلجوقوں کے سامنے شکست تسلیم کر لی، لیکن 468/1075 میں ترک غلام جرنیل سونگین نے اران پر حملہ کیا اور فضل یا فضلون سوم نے اپنی اجدادی مقبوضات اس کے حوالے کر دیں۔ تاہم آنی کے مقام پر ایک اور شاخ بارہویں صدی کے دوران بہت سے نشیب و فراز سے گذر کر بھی موجود رہی۔ آنی میں شدادیوں کی کا ذکر 595/1199 تک ملتا ہے۔

## 38- زیاری (1090-927/483-315)

## ظہرستان اور گرگان

مرداوتج بن زیار	315/927
ظاہر الدولہ وشمگیر	323/935
ظاہر الدولہ بیستون	356/967
شمس المعالی قابوس	367/978
فلک المعالی منوچہر	402/1012
انوشیرواں	420/1029
عصر المعالی کیکاؤس	441/1049
گیلان شاہ	?-483/?-1090

دسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں بحیرہ کا سپہین کے جنوب مغربی کونے پر دیلم کے دور افتادہ اور پسماندہ کوہستانی خطے نے خلافت کی فوجوں میں دوسری جگہوں پر بھی اپنے لوگوں کی بڑی تعداد کو بطور سپاہی روانہ کیا۔ زیاریوں کا تعلق ان کرائے کے سپاہیوں میں سے ہی ایک مرداوتج بن زیار کے ساتھ تھا جو سامانی فوج کے ایک جرنیل اسفار کی بغاوت کے موقع پر شمالی فارس پر قابض ہو گیا۔ اس کا اقتدار جلد ہی جنوب میں اصفہان اور ہمدان تک وسیع ہو گیا، لیکن 323/935 میں وہ اپنے ہی ایک ترک فوجی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی ناپائیدار سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کا بھائی وشمگیر سامانیوں کے بالادستی کو قبول کر کے صرف کا سپہین صوبوں میں ہی اپنے قدم جما سکا۔ دسویں صدی کے نصف آخر میں زیاریوں نے شمالی فارس پر قبضہ کے لیے بیونیوں اور سامانیوں میں جاری جدوجہد میں کچھ اہم کردار ادا کیا، اور قابوس بن وشمگیر کی صورت میں کا ادبی ذوق اور قابلیت کا حامل ایک حکمران پیدا کیا۔ زیاری سلطنت کو دیلم کی دیگر سلطنتوں سے جدا کرنے والی ایک چیز ان کی شیعہ کی بجائے سنی عقائد کے ساتھ وابستگی ہے۔

یاد رہے کہ دسویں صدی کے آغاز میں زیاریوں کو بھی غزنویوں کا نائب بننا قبول کرنا پڑا۔ دونوں خاندان شادی کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، لیکن ان کی 421/1030 سے بعد کی تاریخ

نہایت مبہم ہے۔ سلجوقوں نے کاسپین کے ساحلی علاقے گرگاں اور طبرستان لے لیے، لیکن لگتا ہے کہ زیاری خاندان کے افراد کم قابل رسائی کوہستانی علاقوں میں موجود رہے؛ آخری امیروں میں سے ایک کیکاؤس فارسی زبان میں ”بادشاہوں کا آئینہ“ (قابوس نامہ) کا مصنف ہونے کے طور پر مشہور ہے۔ اس کا بیٹا گیلان شاہ اس سلسلے کا آخری معلوم رکن تھا۔ غالباً اسے کا تخت کوہ البرز کے اسماعیلیوں نے الٹا، اور اس کے بعد سلطنت صفحہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔

### 39- بیوٹی یا توہی (1062-932/454-320)

فارس اور عراق

#### 1- فارس اور خوزستان میں سلسلہ

عماد الدولہ علی	322/929
عدو الدولہ فنا خسرو	338/949
شرف الدولہ شیرزیل	372/983
شمس الدولہ مرزوبان	380/990
بہاؤ الدولہ فیروز	388/998
سلطان الدولہ	403/1012
مشرف الدولہ حسن	412/1021
عماد الدین مرزوبان	415/1024
الملک الرحیم خسرو فیروز	440/1048
نولادستون (صرف فارس میں)	447-54/1055-62

شبان کارعی کردی سردار فضلوہ نے فارس میں اقتدار پر قبضہ کر لیا

#### 2- کرمان میں سلسلہ

معز الدولہ احمد	324/936
عدو الدولہ فنا خسرو	338/949



صمصام الدولہ مرزوبان	372/983
بہاؤ الدولہ فیروز	388/998
قوام الدولہ	403/1012
عماد الدولہ مرزوبان	419-40/1028-48
قاورد کا سلجوق سلسلہ	
<b>3-جبال میں سلسلہ</b>	
عماد الدولہ علی	320/932
رخ الدولہ حسن	335-66/947-77
	(ل) ہمدان اور اصفہان میں شاخ
معید الدولہ بیویہ	366/977
فخر الدولہ علی	373/983
شمس الدولہ	387/997
سماع الدولہ (کیکوئی اقتدار کے ماتحت)	412-419
	(ب) رے میں شاخ
فخر الدولہ علی	366/977
ماجد (محمد) الدولہ رستم	387-420/997-1029
غزنوی فتوحات	
<b>4-عراق میں سلسلہ</b>	
معز الدولہ احمد	334/645
عزت الدولہ بختیار	356/967
عدود الدولہ فنا خسرو	367/978
شمس الدولہ مرزوبان	372/983
شرف الدولہ شیرزیل	376/987

بہاؤ الدولہ فیروز	379/989
سلطان الدولہ	403/1012
مشرف الدولہ حسن	412/1021
جلال الدولہ شیرزیل	416/1025
عمادالدین مرزوبان	435/1044
الملک الرحیم خسرو فیروز	440-7/1048-55

### بغداد پر سلجوق قبضہ

بیوئی طاقت اور علاقائی وسعت کے اعتبار سے ان سلطنتوں میں سب سے بڑھ کر تھے جنہوں نے ایرانی تاریخ کے دیلمی شورش کے عرصے میں فروغ پایا..... یعنی دسویں اور ابتدائی گیارہویں صدی، سلجوقوں کی آمد سے پہلے۔ غیر واضح وجوہ (جو سیاسی کی بجائے سماجی اور مذہبی ہی ہوں گی) کی بنا پر ابتدائی برسوں میں دیلمیوں کی اپنے وطن سے نقل مکانی نظر آتی ہے۔ ان کے ایک کامیاب فوجی رہنما مرداوتج بن زیار نے زیاری سلسلے کی بنیاد رکھی اور بیویوں نے اسی کی فوج میں پہلی مرتبہ شہرت حاصل کی۔

مرداوتج کے قتل ہونے کے موقع پر تین بیوئی بھائیوں میں سب سے بڑا علی اصفہان پر قابض تھا، اور کچھ ہی عرصہ بعد اس نے فارس کو اپنے اختیار میں کر لیا، جبکہ حسن جبال اور احمد کرمان اور خوزستان کے مالک تھے۔ 334/945 میں احمد بغداد میں داخل ہوا اور عباسیوں نے بیوئی امیروں کے ماتحت نگرانی کا 110 سالہ دور شروع کیا۔ یہ بیوئی امیر عموماً امیر الامرا کہلاتے تھے۔ صدی کے تیسرے ربع میں احمد کے بیٹے عدود الدولہ نے عراق، جنوبی فارس اور حتیٰ کہ اومان میں بیوئی مقبوضات کو اپنے تحت متحد کیا، اور اس حکمران کے دور میں بیوئی سلطنت نے اتحاد اور اثر و رسوخ میں انتہائے عروج حاصل کیا۔ عدود الدولہ نے مغرب میں الجزائرہ کے حمدانیوں اور مشرق میں طبرستان کے زیاریوں اور خراسان کے سامانیوں کے خلاف توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل کیا۔ تاہم اقتدار کا ایک پدرسری تصور بیویوں میں بالعموم موجود رہا۔ عدود الدولہ جیسے ایک طاقتور حکمران کی قیادت میں تو خاندان متحد رہا، لیکن اس کی موت کے بعد سلطنت بہت زیادہ نفاق اور

پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس عدم اتحاد کے باعث سب سے پہلے تو محمود غزنوی نے 420/1055 میں رے اور جبال کو بیویوں سے چھین کر ساتھ ملا لیا اور پھر سلجوق طغرل کی مغرب کی جانب آمد کے پیش نظر کمزوری کی حالت میں ہی چھوڑ دیا۔ (سلجوق طغرل سنیوں کی راسخ العقیدگی کو استعمال میں لانے اور یہ دعویٰ کرنے کے قابل تھا کہ وہ عراق اور مغربی فارس کو کافروں سے آزادی دلوارہا تھا۔) 447/1055 میں بغداد پر قبضہ کر لیا گیا لیکن فارس کے بیوی امیر نے سات برس تک اقتدار سنبھالے رکھا۔ انجام کار اس کی مقبوضات پر مقامی شبان کاری کر دیا بعض ہو گئے، مگر جلد ہی انھیں سلجوقوں کے حق میں بے دخل ہونا پڑا۔

زیادہ تر دہلیویوں کی طرح بیوی بھی اہل عشری کو ماننے والے معتدل شیعہ تھے۔ ان کے علاقوں میں روایتی شیعہ تیوہار متعارف کروائے گئے، اور ان کے دور میں شیعہ دینیات (جو قبل ازیں مبہم اور جذباتی تھی) کو منظم اور عقلی رنگ دیا گیا۔ تاہم ان کا شیعہ ازم غالباً عرب مخالف ایرانی قومی احساسات کا اظہار تھا؛ اس لحاظ سے ان کی خود کو شجرہ نسب میں سامانیوں کے ساتھ ملانے کی کوششیں اور فارس کا قدیم شاہی خطاب شہنشاہ اختیار کرنا قابل غور ہیں۔ خلیفہ کی سیاسی طاقت اور مادی وسائل کو لازمی طور پر محدود کیا گیا، تاہم بیویوں نے خلافت کے خاتمے کی کوئی کوشش نہ کی، اور انھوں نے اپنے سیاسی مخالفین اسماعیلی شیعہ فاطمیوں کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ثقافتی اعتبار سے بیویوں کی دوسری اور تیسری پشت میں فارسی اور عربی ادب کی قدر افزائی کی گئی اور اس عہد کے کچھ عظیم ترین محققین نے ان کی نگرانی میں کام کیا، جن میں ابوالفرج اصفہانی بھی شامل تھا۔

#### 40- کاٹوئی یا کا کوی (398-443/1008-51)

خود مختار حکمران؛ ان کے بعد سلجوقوں کے باجگوار

وسطی اور مغربی فارس

علاء الدولہ محمد بن دشمن زیار

398/1008

ابو منصور فرہرز (اصفہان)

433-43/1041-51

ابو کالیجار گر شاپ اول (ہمدان اور نہاوند میں) 433-440/1041-1048 اندازاً

ابو منصور علی (یزد میں)

1095-488/?

1119-1095/513-488 اندازاً ابو کا لیجار گر شاسپ دوم (یزد میں)

کا کوئی ایک دیلمی سلطنت تھی جنھوں نے بیویوں کے انحطاط کے دور میں مغربی فارس میں ترقی پائی اور بعد میں سلجوقوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باج گزار ہی بن کر رہ گئے۔ دشمنز یا ایک دیلمی تھا جس نے رے اور جبال کے بیویوں سے شہر یار نامی شہر حاصل کیا تھا۔ اس کا بیٹا علاء الدولہ محمد ابن کا کو یا (کا گو یہ) کے نام سے مشہور تھا، اور ذرائع کے مطابق دیلمی بولی میں کا گو کا مطلب ماموں تھا۔ محمد بیوی امیر ماجد الدولہ کا ماموں تھا۔ 398/1008 میں وہ اصفہان کا گورنر بن گیا اور جلد ہی ہمدان اور مغربی فارس کے دیگر شہروں پر قبضہ کر لیا؛ اس خطے کے بھرپور محصولات کے ذریعہ اس نے ایک موثر کرائے کی فوج تیار کی اور کا کوئیوں کو کچھ عرصہ کے لیے ایک اہم طاقت بنا دیا۔ اس نے اپنے دربار میں شعراً اور محققین کی حوصلہ افزائی کی۔ اور فلسفی ابن سینا تا دم مرگ اس کا وزیر رہا۔ جب محمود غزنوی نے 420/1029 میں رے فتح کیا تو ابن کا کو یہ کو اطاعت پر مجبور ہونا پڑا؛ لیکن غزنویوں نے ان دور افتادہ علاقوں کو قبضے میں لینا مشکل پایا اور ایک موقع پر تو کا کو یہ خود رے پر قابض ہو گیا۔

اوغوز کے حملوں اور ان کے ریوڑوں نے فارس میں ساری سیاسی صورت حال بدل کر رکھ دی اور دیگر دیلمی طاقتوں کی مانند کا کوئیوں کو دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ 433/1041 میں جب ابن کا کو یہ کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا فرامرز اصفہان میں تخت نشین ہوا، لیکن اسے سلجوقوں کو اپنے آقا تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 443/1051 میں بلخرل نے اصفہان پر حتمی طور پر قبضہ کیا تو فرامرز نے اس کے بدلے میں ابرقوہ اور یزد لے لیے۔ اس کے بھائی گر شاسپ نے ہمدان اور نہاوند میں اپنے باپ کی تقلید کی لیکن اوغوز کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کر فارس کے بیویوں کے پاس چلا گیا۔ لگتا ہے آخری کا کوئیوں نے خود کو کافی حد تک عظیم سلجوق دور کے مطابق بنا لیا۔ علی بن فرامرز یزد میں اپنے باپ کا جانشین بنا اور چغری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی؛ اس خاندان کے جس آخری فرد کا ذکر ملتا ہے وہ گر شاسپ بن علی تھا۔ اس نے سلاطین محمد اور سنجر کی بہن سے شادی کی۔

## 41- طاہری (73-821-59-205)

## خراسان

طاہر اول بن حسین، المعروف دھوا لیمینی	205/821
طلحہ	207/822
عبداللہ	213/828
طاہر دوم	230/845
محمد	248-59/862-73

## صفاری اور سامانی

طاہر بن الحسین فارسی مولانا نسل سے تھا۔ وہ المامون کے دور میں سپہ سالار کے طور پر 194/810 میں الامین کے خلاف جنگ نمایاں ہوا، اور بغداد کی شکست کے بعد اس شہر اور الجزیرہ کا گورنر بن گیا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اس نے خطبہ جمعہ سے المامون کا نام حذف کرانا شروع کر دیا تھا جو کہ اظہار بغاوت یا خود مختاری کے اعلان کے مترادف تھا۔ لیکن خلیفہ نے طاہر کے بیٹے طلحہ کو گورنری سونپ دی کیونکہ اس کی نظر میں اور کوئی بھی شخص اس عہدے کے قابل نہ تھا۔ تب سے طاہری نیشاپور کو دار الحکومت بنا کر تقریباً خود مختاری کے ساتھ حکومت کرنے لگے، اور بغداد کو باقاعدگی کے ساتھ خراج دیتے رہے (اس خراج میں ترک خلیفہ کے پیشہ ور غلام فوجیوں کا بنیادی ذریعہ بن گئے)۔ ان کا کٹر سنی عقیدہ اور مضبوط ایرانی و عرب جاگیردار و عسکری طبقات کی جانب جھکاؤ نے بالائی طبقہ کی طرف سے ان کی حمایت کو یقینی بنا دیا، البتہ وہ عام لوگوں کے حقوق کو تحفظ دینے، زراعت اور تعمیرات کی حوصلہ افزائی اور شاعروں و محققین کی سرپرستی کے لیے بھی اچھی شہرت رکھتے تھے۔ جب طاہری خاندان کی مرکزی شاخ خراسان میں حکمران تھی تو ساتھ ہی ساتھ خاندان کے دیگر افراد سوئس صدی کی ابتدا تک گیرین کے کمانڈر کے اہم عہدے (صاحب الشرطہ) پر تعینات رہے۔

خراسان میں طاہریوں کی مرکزی سیاسی و عسکری کوششوں کا مقصد کا سپین علاقوں میں شیعی دعوت یا پراپیگنڈا کو روکنا اور سیستان میں صفاریوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو لگام ڈالنا تھا۔ تاہم سیستان

میں انھیں ناکامی ہوئی۔ خراسان میں حکومت کرنے والا آخری طاہری محمد بن طاہر دوم اپنے پیش روؤں جیسی قابلیت نہ رکھتا تھا، اور 259/873 میں غیشاپور کو یعقوب بن لیث کے آگے ہار بیٹھا۔ 271/885 میں اسے اس عہدے پر دوبارہ تعینات کیا گیا، لیکن وہ کبھی بھی یہ فریضہ صحیح طور پر نہ نبھاسکا اور دسویں صدی کی ابتدا میں فوت ہو گیا۔

## 42- سامانی (1005-819-395-204)

خراسان اور ورائے جیحون

احمد اول بن اسد بن سامان، (فرگھانہ) فرغندہ کا گورنر	204/819
نصر اول احمد، اصلاً سمرقند کا گورنر	250/864
اسماعیل بن احمد	279/892
احمد دوم بن اسماعیل	295/907
الامیر السعید نصر دوم	301/914
الامیر الحمید نوح اول	331/943
الامیر المعید عبد الملک اول	343/954
الامیر السدید منصور	350/961
الامیر اول	365/976
الرضا نوح دوم	387/997
منصور دوم	389/999
اسماعیل دوم المختصر	390-5/1000-5

قراخانیوں (ورائے جیحون) اور غزنویوں (خراسان) کے درمیان علاقوں کی تقسیم سامانی سلطنت کا بانی شمالی افغانستان کے علاقہ بلخ میں ایک دیہگان یا مقامی جاگیردار سامان خدا تھا، البتہ بعد میں سلطنت نے فارس کے قدیم ساسانی شہنشاہوں کی نسل سے ہونے کا دعویٰ

کیا۔ سامان خدا نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے چار پوتوں نے خراسان میں خلیفہ مامون کی ملازمت کی۔ وفاداری کے ساتھ خدمت کرنے کے انعام میں نوح کو سمرقند، احمد کو فرغند، یحییٰ کو شاش اور الیاس کو ہرات کا گورنر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے ورائے جیحون علاقے میں خود کو خاصا مضبوط کر لیا، اور 263/875 میں نصر بن احمد کو خلیفہ المعتمد نے اس سارے علاقے کا گورنر بنا دیا۔ یہ امیر خطہ سامانی سلطنت کا نیوکلئس بن گیا اور انہوں نے ورائے جیحون کے سیاسی استحکام اور اس کے تجارتی مفادات پرستیوں کے پاگان ترک حملوں کو روکنے کے اضافی فرائض بھی اپنے ذمہ لے لیے۔ ورائے جیحون کی شمالی سرحدیں اور فرغند اسلام کے لیے محفوظ کر لیے گئے تھے، اور 280/893 میں اسماعیل بن احمد نے سیردریا سے پرے قزلق پر حملہ کر کے ان کے دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ستیوں میں اپنی عسکری طاقت کا خوف پیدا کر لینے اور وسط ایشیا کے کارروانوں کے راستے کھلے رکھنے کے ذریعہ سامانیوں نے اپنے علاقوں میں اقتصادی خوش حالی کو یقینی بنایا۔ نویں صدی کے بعد سے مسلم بادشاہوں کی فوجوں میں بھرتی ہونے والے زیادہ تر ترک غلاموں کا تعلق انھی سامانی علاقوں سے تھا۔ خوش حالی کی اس بنیاد پر سامانی امیروں نے بخارا میں اپنے دربار کو نہ صرف روایتی عربی علوم بلکہ نئی فارسی زبان اور ادب کی نشاۃ ثانیہ کا مرکز بھی بنا لیا؛ سامانیوں کے دور حکومت میں ہی فردوسی نے شاہنامہ اسلام لکھنا شروع کیا۔

287/900 میں اسماعیل نے صفاری عمر بن لیث کو شکست دے کر اور حراست میں لے کر عباسی خلیفہ کا دل موہ لیا، اور خراسان کی گورنرشپ انعام میں حاصل کی۔ اب مشرقی ایران میں سامانی سب سے بڑی طاقت تھے۔ افغانستان میں ان کی حاکمیت ہندوستان کی سرحدوں تک کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمالی فارس میں ان کا ککراؤ بیویوں کے ساتھ ہوا؛ یہاں خلافتی اور سنی حمایت کام آئی (کیونکہ سامانی کٹر سنی تھے)، اور خراسان اور ورائے جیحون میں انہوں نے ایسے خطوں پر حکومت کی جو ان کے مسلک کے گڑھ تھے۔

دسویں صدی کے درمیانی برسوں میں سامانی سلطنت ناقوانی اور انتشار کی علامات ظاہر کرنے لگی۔ یکے بعد دیگرے کئی مصلاتی سازشوں نے دکھا دیا کہ عسکری اور جاگیردار طبقات اختیارات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ خراسان میں بغاوتوں کے باعث یہ علاقہ بخارا کے اختیار سے نکل

گیا۔ چنانچہ دسویں صدی کے آخری عشرے کے دوران قراخانیوں اور غزنویوں کو سامانی علاقوں پر قبضہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ آخری بھگوڑا سامانی 395/1005 میں ماا گیا۔

### 43- صفاری (1495-867/900-253)

سیستان	
یحییٰ بن لیث الصفار	253/867
عمرو بن لیث	265/879
طاہر بن محمد بن عمرو	288/901
لیث بن علی	296/908
محمد بن علی	298/910
سامانیوں کا پہلا قبضہ اور محمد بن ہریر کی شورش	298/911
عمرو بن یعقوب محمد بن عمرو	299/912
سامانیوں کا دوسرا قبضہ اور کتھیمر بن احمد اور احمد	300/913
بن قدام کی شورشیں	
احمد بن خلف بن لیث بن علی (اصل میں اسے	310/922
سامانیوں کے لیے گورنر مقرر کیا گیا تھا)	
ولی الدولہ خلف بن احمد	352/963
غزنوی قبضہ	393/1003
طاہر بن خلف (محمود غزنوی کے ابتدائی دور حکومت	?
میں غزنویوں کے نائب گورنر)	
نصر بن احمد (مسعود اور مودود کے دور حکومت	420/1029
میں غزنوی نیابت اور پھر 440/1048 کے	
بعد سلجوق نیابت کے تحت گورنر)	



بہا الدولہ طاہر بن نصر	465/1073
بہا الدولہ خلف بن نصر	482/1090
تاج الدین نصر بن ؟ خلف	496/1103 کے بعد
شمس الدین احمد یا محمد	559/1164
تاج الدین حرب	562/1167
شمس الدین بہرام شاہ	612/1215
تاج الدین نصر	618/1221
منگول حملے: منگول بالادستی کے تحت صفاریوں	618/1221
کا سلسلہ	
رکن الدین ابو منصور	618/1221
شہاب الدین محمود	618/1222
علی	622/1225
شمس الدین علی	626/1229
نصر الدین	652/1254
نصرت الدین	728/1328
قطب الدین محمد	731/1331
تاج الدین اول	747/1346
محمود	751/1350
عز الدین	763/1362
قطب الدین اول	784/1382
تاج الدین دوم	788/1386
قطب الدین دوم	805/1403
شمس الدین	822/1419

نظام الدین یحییٰ

842/1438

شمس الدین محمد

885-?/1480-?

صفاری برادران کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے بانی یعقوب کا تانبے (صفار) کا کاروبار تھا۔ یعقوب اور عمرو کے دور میں ان کا آبائی علاقہ سیستان ایک وسیع لیکن عارضی سلطنت کا صدر مقام بن گیا۔ اس سلطنت میں شمال مغرب حصے کے سوا تقریباً سارے کا سارا فارس شامل تھا۔ نویں صدی کے دوران سیستان فرقہ ورا نہ فسادات اور سماجی بے چینی کے باعث بہت زیادہ گڑبڑ کا شکار رہا۔ یہ مشرق سے بھاگ کر فارس میں آنے والے بہت سے انتشار پسند عناصر، بالخصوص خارجیوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یعقوب اصل میں خود بھی ایک خارجی ہی ہو۔ اس کی فوج کا نیوکلئیس مقامی بدمعاشوں کے گروہ پر مشتمل تھا جو سیستان میں سنی عقائد کا دفاع کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، لیکن اس کی فوج میں بہت سے خارجی بھی بھرتی ہونے لگے۔ یعقوب نے یہ فوج جمع کر لینے کے بعد مشرق کی جانب افغانستان میں کابل اور اس کے بعد ہندی دنیا کے کناروں تک توسیع اختیار کی، اور وہاں کے مقامی حکمرانوں کو نکال باہر کیا۔ مغرب میں اس نے طاہریوں پر حملہ کر کے ان سے خراسان کی مقبوضات چھین لیں اور 259/873 میں ان کے دارالحکومت نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ طاہری اور سامانی مذہبی بنیاد پرستی اور نظام حسب مراتب کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ صفاری سردار بدمعاشوں جیسا طرز ع،؛ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کی فوج میں بہت سے کثیرالمد اہب اور ریڈیکل عناصر موجود تھے۔ طاہریوں کا دفاعی بند ٹوٹ جانے کے بعد بغداد کے عباسی خلیفہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ عمرو کو سیستان، خراسان میں اپنا گورنر تسلیم کر لے۔ ان وسیع علاقوں پر بھی قناعت کیے بغیر عمرو نے ورائے جیحون کو لالچی نظروں سے دیکھا جو اس وقت نام نہاد طور پر طاہریوں کی زیر نگرانی تھا۔ لیکن ورائے جیحون میں طاقت کے اصل مالک سامانی صفاریوں کے برابر کا جوڑ ثابت ہوئے، اور امیر اسماعیل بن احمد نے عمرو کو شکست دے کر قید کر لیا۔ فوجی فاتحین کی ذاتی تخلیق صفاری سلطنت کی عمارت زمیں بوس ہو گئی، اور دسویں صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران سیستان پر سامانیوں کا اختیار ہو گیا۔

شدید پابندیوں کے باوجود سامانی خاندان تقریباً مزید چھ سو سال تک سیستان میں موجود رہا،

اور یہ بات واضح ہے کہ وہ سیستان کے مقامی لوگوں کے مفادات اور امنگوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ سیستان میں حملوں کی متعدد لہروں کے باوجود وہاں صفاریوں کے قائم رہنے کی اور کوئی توضیح نظر نہیں آتی۔ سامانیوں کی اطاعت کا جواز زیادہ وزنی نہ تھا اور صفاری جلد ہی گورنروں اور مقامی حکمرانوں کے طور پر دوبارہ نمودار ہوئے۔ دسویں صدی کے ایک امیر خلف بن احمد نے علم و فضل کے فیاض سرپرست کے طور پر شہرت حاصل کی۔ 393/1003 میں محمود غزنی نے علاقے پر چڑھائی کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تاریخ سیستان کا محبت وطن مورخ اس واقعہ کو ملک کے لیے تباہ کن بیان کرتا ہے۔ تاہم صفاری ایک مرتبہ پھر ابھرے اور گیارہویں صدی کے وسطی برسوں کے دوران سلجوق۔ غزنوی لڑائی میں اپنی حیثیت کو مستحکم بنایا، اور پہلے سلجوقوں اور پھر غوریوں کے باجگزاروں کے طور پر حکومت کی۔ حتیٰ کہ منگولوں اور تیمور کے تباہ کن حملوں کے بعد بھی وہ پندرہویں صدی کے اختتام تک خود کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔

#### 44- خوارزم شاہان

##### 1- کاتھ کے افریگھی / افریغی (305-385/995)

ابو عبد اللہ محمد

995-385/?

مامونی فتوحات

##### 2- گرگنج کے مامونی

ابو علی مامون اول

382/992 اندازاً

ابو الحسن علی

387/997

ابو العباس مامون دوم

399/1000

ابو الحارث محمد

407-8/1017

غزنوی فتح

##### 3- غزنوی گورنر (408-25/1017-34)

التیمش

408/1017

ہارون بن اللمکش (برائے نام خوارزم شاہ، غزنہ کے سعید بن مسعود کا لیفٹیننٹ اور اس کے بعد غزنہ سے آزاد)	423/1032
اسماعیل خاندان بن اللمکش (غزنہ سے آزاد)	425/1034
جند کے شاہ اوغوز بہنو کی فتح خوارزم	432/1041

#### 4- انوشنگین کا سلسلہ (1231-1077/628-470)

آغاز میں سلجوقوں کے گورنر کے طور پر اور بعد ازاں وسطی ایشیا اور فارس میں آزاد حکمرانوں کی

(حیثیت میں)

انوشنگین گھر چائی اول	470/1077 اندازاً
ترک گورنر ایلکچی بن قوچار	490/1097
قطب الدین محمد	490/1097
علاء الدین آتسبز	521/1127
ایل ارسلان	551/1156
علاء الدین جمکیش	567/1172
سلطان شاہ بن ایل ارسلان، شمالی خراسان میں مخالف حکمران	567-89/1172-92
علاء الدین محمد	596/1200
جلال الدین منگہرنو (؟ اس ترک نام کی اصل صورت غیر یقینی ہے)	617-28/1220-31

#### منگول تسخیر

خوارزم زیریں جیحون کے کنارے واقع ایک زرخیز زرعی خطہ تھا جہاں بعد ازاں کھو خانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ چاروں جانب سے چراگاہوں اور صحرا میں گھرا ہونے کے باعث یہ جغرافیائی اعتبار سے بالکل الگ تھلک تھا۔ اس جغرافیائی خصوصیت نے اسے طویل عرصہ تک اپنا جداگانہ

سیاسی وجود قائم اور ممتاز ایرانی ثقافت کو جاری رکھنے کے قابل بنایا۔ خوارزم ہندی ایرانیوں کا گھر بھی رہا ہے۔ مورخ بیرونی نے وہاں کی سیاسی زندگی کی ابتدا پہلے ہزارے میں بتائی ہے۔ اس کے مطابق ایرانی افریقی سلطنت کا آغاز 305 عیسوی میں ہوا، اور وہ 385/995 میں اس کے خاتمے تک بیس شاہوں کی فہرست پیش کرتا ہے۔ خوارزم پہلی مرتبہ 93/712 میں اسلام کے اثر میں آیا جب خراسان کے عرب گورنر قتیبہ بن مسلم نے خوارزم پر حملہ کیا اور مقامی تہذیب کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا۔ لیکن آٹھویں صدی کے آخر یا نویں صدی کے آغاز میں ہی کہیں جا کر ایک خوارزم شاہ نے اسلام قبول کیا اور عبد اللہ کا نام اختیار کر لیا۔

دسویں صدی کے دوران درائے جنجون کے بائیں کنارے پر گرگنج نامی شہر نے سیاسی اور اقتصادی اہمیت حاصل کر لی، جس کی بڑی وجہ اس کا سائبیریا اور روس جانے والے تجارتی راستے کے آخر پر واقع ہونا تھا۔ ایک مقامی خاندان، مامونیوں نے 385/995 میں کاتھ (جو دریا کے دائیں کنارے پر واقع تھا) کے افریقیوں کو شکست دی اور خود کو خوارزم شاہ کہلانے لگے۔ مامونیوں کا عرصہ حکومت مختصر سہی لیکن کامیابیوں سے عاری نہ تھا۔ ابن سینا اور ثعلبی جیسے فلسفیوں اور ادیبوں نے ان کی سرپرستی حاصل کی۔ یوں یو خوارزم سامانیوں کی نیابت میں تھا اگرچہ عملی طور پر اس کا کوئی اظہار نہیں ملتا تھا۔ لیکن 408/1017 میں (خراسان میں سامانی طاقت کے وارث) محمود غزنوی نے خوارزم کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں وہاں مامونیوں کی حکومت اختتام پذیر ہوئی۔ کوئی بیس برس تک علاقے پر غزنویوں کے ترک غلام گورنروں کے حکومت رہی اور پھر اوغز ترک یغیو یا سیر دریا کے دہانے پر واقع چند کے حکمران شاہ ملک بن علی وہاں کا حکمران بن بیٹھا۔ لیکن فوراً ہی شاہ ملک کا تختہ سلجوق دشمنوں نے الٹ دیا (432/1040) اور خوارزم سلجوق اختیار میں چلا گیا۔

سلجوق سلاطین نے اپنے گورنر تعینات کیے، اور ملک شاہ کے دور حکومت میں ایک ترک غلام انوشکین گھر چائی گورنر تھا جو شاہی طشت دار رہ چکا تھا۔ اس کے جانشین موروثی گورنر بن گئے اور خوارزم شاہان کا لقب اختیار کیا۔ انوشکین کا بیٹا سلجوقوں کی اطاعت کا طوق گلے سے اتار پھینکنے کا عزم دل میں لیے ہوئے تھا۔ 535/1141 میں قراخانی کے ہاتھوں سمرقند کی خوفناک شکست

کے بعد یہ مقصد پورا کر لینا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ لیکن تب خوارزم شاہان کو مشتق بعید سے آنے والے ان نئے حملہ آوروں کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ عملی طور پر قراخانیوں نے خوارزم شاہان ان کے حال پر ہی رہنے دیا، اور بارہویں صدی کے آخری عشروں کے دوران خراسان اور ایران کے سارے مشرقی علاقے پر بالادستی حاصل کرنے کی خاطر خوارزم شاہان اور فیروز کوہ وغز نہ کے غوریوں کے مابین زبردست جدوجہد کا عرصہ دیکھا۔ تیرہویں صدی کے ابتدائی برسوں میں شاہان فتح مندر ہے، اور وہ ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر اناطولیہ کی سرحدوں تک کے وسیع علاقے پر محیط سلطنت کے مالک بن گئے۔ انہوں نے مغربی فارس میں سلجوق حکومت کی باقیات کا خاتمہ اور کر کے بغداد کے عباسی خلفاء کے خلاف پیش قدمی کی۔ تاہم یہ متاثر کن کامیابی ناپائیدار ثابت ہوئی؛ 617/1220 میں چنگیز خان کے منگولوں نے ورائے جیچون کا فتح کیا اور آخری خوارزم شاہ جلال الدین کا دور مشرق وسطیٰ میں منگولوں کی آمد کو روکنے کی جراتمندانہ لیکن لا حاصل کوششوں کی نذر ہوا۔

بعد کی صدیوں میں خوارزم مختلف وسط ایشیائی افراد کے زیر اختیار آیا اور اس کا اصل ایرانی کردار کھل طور پر دب گیا۔ اگرچہ خوارزم شاہ کا لقب پندرہویں صدی کے تیموری گورنر بھی استعمال کرتے رہے۔

#### 45- قراخانی (1211-607/992-382)

ورائے جیچون اور مشرقی ترکستان

#### 1- متحدہ بادشاہت کے عظیم قغان

علی بن موسیٰ

?

احمد اول ارسلان قراخان یا توغان خان

388/998

منصور ارسلان خان

406/1015

احمد دوم توغان خان

415/1024

یوسف اول قادر خان

417-24/1026-32

## 2- مغربی بادشاہت کے عظیم قنان

(ورائے جیحون، بخارہ و سمرقند اور مغربی فرغانہ سمیت)

محمد عین الدولہ	413/1041
ابراہیم اول بورینگین تمنج خان	444/1052
نصراول	460/1068
خضر	472/1080
احمد اول	?473/?1081
یعقوب	482/1089
مسعود اول	488/1095
سلیمان	490/1097
محمود اول	490/1097
جبرائیل	492/1099
محمد دوم	495/1102
نصردوم	?523/?1129
احمد دوم	?523/?1129
حسن	524/1130
ابراہیم دوم	?526/?1132
محمود دوم (بعد میں سلجوق سخر کے بعد خراسان کا گورنر)	526/1132
ابراہیم سوم	536/1141
علی	551/1156

مسعود دوم	556/1161
ابراہیم چہارم (574/1178 میں صرف فرغانہ اور اس کے بعد سمرقند میں بھی)	574/1178

عثمان

600-7/1204-11

خوارزم شاہان کا وراثے جیحون پر قبضہ

## 3- مشرقی سلطنت کے عظیم قغان

(تلس، اسفجباب، شاش،، یمرچے، کاشغرا اور عموماً مشرقی فرغانہ)

سلیمان	423/1032
محمد اول	448/1056
ابراہیم	449/1057
محمود	451/1059
عمر	467/1074
حسن یا ہارون	467/1075
احمد یا ہارون	496/1103
ابراہیم دوم	522/1128
محمد دوم	553/1158
یوسف دوم	?
محمد سوم	607/1211

## کوچلوگ کا قبضہ

قراخانوں کو یہ نام پورپی مستشرقین نے دیا کیونکہ ان کے القاب میں قرا (کالا) کا لفظ بار بار آتا ہے۔ انہیں ایک (خاص) خان یا آل افراسیاب بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت کے بارے میں اولین حوالے اوسلیجان پر عسک کے مطابق قراخانی سلطنت قرغ ترک لوگوں..... ایک گروپ جس نے تہی کی قدیم تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا..... کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس



تعلق کی توثیق نہیں ہو سکی لیکن قرین قیاس یہی ہے۔

قراخانی دسویں صدی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، اور ان کے سردار سئق بغراخان نے اسلامی نام عبدالکریم اختیار کر لیا۔ اس کا پوتا ہارون یا حسن بغراخان ورائے جیحون کے سامانیوں کے انحطاط کے باعث پیدا ہونے والے خلا کی وجہ سے جنوب کی جانب متوجہ ہوا۔ 382/992 میں اس نے بخارا پر قبضہ کر لیا، اور کچھ ہی برس بعد اس نے اورغزنہ کے محمود نے سامانیوں کی حاکمیت کو پوری طرح ختم کر دیا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان دریائے جیحون سرحد بن گیا، اور آئندہ دو صدیوں کے لیے قراخانیوں کے علاقے بخارا اور زیریں سیردریا سے لے کر مغرب میں سمرچہ اور مشرق میں کاشغر تک وسیع رہے۔ 407/1016 میں قراخانی خاندان کے افراد کے درمیان جنگ وجدل کا ذکر ملتا ہے، اور 493/1041 کے بعد حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مغربی حصے میں ورائے جیحون اور مغربی فرغانہ شامل تھا اور مشرقی حصے میں تلس، اسنجاہ، شاش، مشرقی فرغانہ، سمرچہ اور کاشغر شامل تھے۔ عظیم قغان علی بن موسیٰ کی اولاد مغرب میں اور اس کے کزن ہارون یا حسن بغراخان کی اولاد (حسنی) مشرق میں حکومت کر رہے تھے۔ بارہویں صدی کے اختتامی برسوں میں جب قغان احمد اول بن خضر نے مبینہ طور پر اسماعیلی شیعہ ازم اختیار کر لیا تو بخارا میں ایک بحران پیدا ہوا۔ قبل ازیں سلجوق ملک شاہ کی حکومت میں دخل اندازی کر چکے تھے، اور اب قراخانیوں نے مطلق طور پر سلجوقوں کی نیابت قبول کر لی۔ لیکن 536/1141 میں قطوان تپسی کے مقام پر سبخر کی خوفناک شکست کے بعد دریائے جیحون کے شمال میں سارے ترکستان کا کنٹرول بت پرست قراخطائی کو مل گیا۔ آخری قراخانی قراخطائی کنٹرول کو ختم کرنے میں کامیاب رہا، لیکن آخری مغربی قغان، سمرقند کے عثمان 607/1211 میں خوارزم شاہ علاء الدین کے ہاتھوں مارا گیا اور مشرقی حصے پر مختصر عرصہ کے لیے منگول کوچلوگ نے قبضہ جمایا۔

دوسری طرف ترک غزنویوں نے فارسی اسلامی طرز پر ایک مضبوط مرکز ریاست تشکیل دی، جبکہ قراخانی کافی حد تک اپنے قبائلی ماضی کے ساتھ ہی جڑے رہے۔ ترکی زبان کی دو قدیم ترین تحریروں کا تعلق قراخانی دور سے ہی ہے۔ قراخانی علاقے ایک ڈھیلی ڈھالی قبائلی فیڈریشن کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے اور قرغ قبائلیوں کا زیادہ تر حصہ بدستور خانہ بدوش ہی رہا۔

## سلجوق اور اتابیگ

### 46- سلجوق (1194-1038/590-429)

#### 1-عظیم سلجوق (عراق اور فارس)

رکن الدین والدین طغرل (توغرل) اول	429/1038
عدود الدولہ	455/1063
جلال الدولہ ملک شاہ اول	465/1072
نصر الدین محمود اول	485/1092
رکن الدین برک یاروک (برکیاروک)	487/1094
معز الدین ملک شاہ دوم	498/1105
غیاث الدین محمد اول	498/1105
معز الدین سنجر (مشرقی فارس میں حکمران	511-52/1118-57
511/1118 اور 490-552/1097-1157	
کے بعد سلجوق خاندان کا مطلق سلطان)	

#### صرف عراق اور مغرب فارس میں

مغیث الدین محمود دوم	511/1118
غیاث الدین داؤد	525/1131
رکن الدین تغرل دوم	526/1132
غیاث الدین مسعود	529/1134
معین الدین ملک شاہ	547/1152
رکن الدین محمود دوم	548/1153

غیاث الدین سلیمان شاہ	555/1160
معز الدین ارسلان	556/1161
رکن الدین تغزل سوم	571-90/1176-94

خوارزم شاہان

## 2- شام کے سلجوق (471-511/1078-1117)

تاج الدولہ ٹٹش	471/1078
رضوان (حلب میں)	488-507/1095-1113
بقاک (دمشق میں) اس کے اتابک تغتجن نے	488-497/1095-1104
اس کی جگہ سنجالی	
الپ ارسلان الاخرس (حلب میں)	507/1113
شاہ سلطان (حلب میں)	508-11/1114-17

دمشق میں تغتجن، بوریوں یا بیوریوں کی نسل، حلب میں ارتو کدال غازی

## 3- کرمان کے سلجوق (433-582/1041-1186)

عماد الدین قاورد	433/1041
کرمان شاہ	465/1073
حسین	467/1074
رکن الدولہ سلطان شاہ	467/1074
محمی الدین توران شاہ	477/1085
بہا الدین ایران شاہ	490/1097
محمی الدین ارسلان شاہ اول	495/1101
مغیث الدین محمد اول	537/1142
محمی الدین تغزل شاہ	551/1156
بہرام شاہ	565/1170

ارسلان شاہ دوم	570/1175
توران شاہ دوم	572/1176
محمد دوم	579-82/1183-6

## غز قبضہ

سلجوق بالاصل اوغوز ترک افراد کے چن قبیلے میں سرداروں کا ایک خاندان تھا۔ دسویں صدی  
 اوخر میں اسلام قبول کرنے پر وہ خوارزم اور ورائے جیچون میں اسلامی دنیا میں اسے طرح شامل  
 ہوئے جیسے کہ اور بہت سے بربری تارکین وطن شامل ہوئے تھے..... یعنی وہاں کی متحارب  
 طاقتوں کے لیے کرائے کے سپاہیوں کے طور پر۔ سلجوقوں اور ان کے خانہ بدوش جتھوں نے  
 غزنویوں سے خراسان چھین لیا، اور 429/1038 میں طغرل نے نیشاپور میں سلطان ہونے کا  
 دعویٰ کر دیا۔ طغرل نے جان بوجھ کر اپنی حاکمیت کو سنی کا ز اور عباسی خلفاء کی شیعہ بیویوں سے  
 خلاصی کے ساتھ نٹھی کر لیا؛ اس پالیسی نے اسے مغربی فارس کی دیلمی طاقتوں کے خلاف سلجوق  
 پیش قدمی کے دوران بنیاد پرستوں کی حمایت حاصل کرنے میں مدد دی۔ 447/1055 میں  
 طغرل بغداد میں داخل ہوا خلیفہ سے اپنے سلطان ہونے کی توثیق حاصل کی۔ چند برس بعد  
 بیویوں کا سلسلہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔

اب سلطان سلطنت بہت تیزی کے ساتھ فارسی اسلامی طرز کی سلسلہ حسب مراتب والی  
 ریاست کی صورت اختیار کر گئی، جس میں مطلق سلطان کی مدد ایک فارسی بیوروکریسی اور ترک غلام  
 کمانڈروں کے ماتحت ایک کثیر القومی فوج کر رہی تھی۔ ترکمان بیگوں یا سرداروں کے دور میں  
 بہت سے قبائلی بھی اس عسکری نیوکلئیس میں شامل ہونے لگے۔ الپ ارسلان اور اس کے بیٹے  
 ملک شاہ (دونوں کا انحصار کافی حد تک نہایت قابل فارسی وزیر نظام الملک پر تھا) کی حکومت کے  
 دوران عظیم سلجوقوں کی سلطنت اپنے عروج کو پہنچی۔ مشرق میں خوارزم اور مغربی افغانستان کو  
 غزنویوں سے چھینا جا چکا تھا۔ اور ملک شاہ نے اپنے عہد حکومت کے آخر میں ورائے جیچون پر حملہ کیا  
 اور قرآخانیوں کو مطیع بنایا۔ مغرب میں کاشیا کے عیسائی چارجیوں کے خلاف سختی کی گئی؛ قاطمی  
 اثر و رسوخ کو شام اور الجزائرہ میں ختم کیا گیا، عقیلیوں جیسی شیعہ ازم کی جانب تھوڑی بہت جھکاؤ

رکھنے والی سلطنتوں کا خاتمہ کر کے ان جگہ پر شام میں قابل بھروسہ ترکی گورنروں کو تعینات کیا گیا۔ اناطولیہ میں ملازگرد کے مقام پر بازنطینیوں کی شکست (463/1071) نے ترکمانوں کے لیے ایشیائے کوچک میں مہم جوئی کرنا ممکن بنا دیا، اور ان حملہ آوروں نے وہاں متعدد ترک جاگیروں (Principalities) کی بنیاد رکھی۔ ملک شاہ کے بھائی ٹیش اور ٹیش کے بیٹوں اور پوتوں نے حلب اور دمشق میں قلیل المدت چھوٹی سی سلجوق شاخ قائم کی۔ حتیٰ کہ سلجوقوں کے ہاتھ جزیرہ نما عرب میں یمن اور بحرین تک بھی پہنچ گئے۔ کرمان میں طغرل کے بھتیجے قاورد نے ایک مقامی سلطنت قائم کی جو ڈیڑھ سو برس بعد (582/1186) اوغوز قبائلیوں کی آمد تک قائم رہی۔ دانشورانہ میدان میں وزیر نظام الملک اور الغزالی جیسے محققین نے سیاسی سطح پر شیعہ ازم کی شکست کو عملی صورت دی اور بنیاد پرست سنی رد عمل کو مستحکم کیا۔

ایک ایسی سلطنت میں مرکز گریز رجحانات پیدا ہونا (مرکز کا کڑا کنٹرول نرم ہونے پر) ہرگز خلاف قیاس نہ تھا جہاں علاقوں کو سلطنت کے مختلف افراد کے درمیان تقسیم کرنے کے پدرسری ترک خیالات بدستور غالب تھے۔

ملک شاہ کی وفات کے بعد عراق اور فارس کے سلجوق پھوٹ اور نفاق کا شکار تھے، البتہ کراسان میں استحکام کا ایک عنصر متواتر موجود رہا جہاں ملک شاہ کا بیٹا ساٹھ برس تک گورنر اور اس کے بعد سلطان رہا۔ 511/1118 میں سخر کے بھائی محمود کی وفات کے بعد اسے خاندان کے سینئر رکن اور مطلق سلطان کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ عراق میں عباسی خلفاء کے اثر و رسوخ کی بحالی نے سلجوق طاقت کو بہت نقصان پہنچایا، اور فارس، الجزائرہ اور شام میں مقامی اتابگیوں نے سلطان کے حلقہ اثر کو محدود کر دیا۔ ان اتابگیوں نے اس دور میں مشتق قریب میں اسلام کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ ترک غلام کمانڈر تھے جنہیں صوبوں کے گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ خانہ بدوش اور کم مہذب ترکمانوں کو ایک باقاعدہ سلجوق ریاست میں جذب کرنے کا مسئلہ کبھی بھی پوری طرح حل نہ ہو سکا؛ اور جب اوغوز قبائلیوں کی شورش کے نتیجے میں سخر کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو خراسان سلجوق کنٹرول سے نکل گیا۔ مغرب میں آخری سلجوق سلطان طغرل بن ارسلان نے خود کو ایلدیگوزی اثر سے نکالنے کی جدوجہد کی، لیکن ناسمجھی میں خوارزم شاہ ٹیکش کے ساتھ جنگ چھیڑ بیٹھا اور 590/1194

میں مارا گیا۔ صرف اناطولیہ میں ہی مزید ایک سو برس تک ایک سلجوق سلسلہ جاری رہا۔

## 47- ارثوٹی (495-811/1102-1408)

دیار بکر

### 1- حصن اور آمید شاخ (491-629/1098-1232)

معین الدین سوکمین اول	491/1098
ابراہیم	498/1105
رکن الدولہ داؤد	502/1109 اندازاً
فخر الدین قرارسلان	539/1144
نور الدین محمد	562/1167
قطب الدین سوکمین دوم	581/1185
ناصر الدین محمود	597/1201
رکن الدین مودود	619/1222
الملك المسعود	629/1232

ایوبی تسخیر

### 2- ماردین اور میافارقین شاخ (497-811/1104-1408)

نجم الدین دوم غازی اول	497/1104
حسام الدین تیمورش	516/1122
نجم الدین الپی	547/1152
قطب الدین دوم غازی دوم	572/1176
حسام الدین یولوک ارسلان	580/1184
ناصر الدین ارتق ارسلان	597/1201 اندازاً
نجم الدین غازی اول	637/1239

قرا ارسلان المظفر	658/1260
شمس الدین داؤد	691/1292
نجم الدین غازی دوم	693/1294
عماد الدین علی الہی	712/1312
شمس الدین صالح	712/1312
احمد المنصور	765/1364
محمود الصالح	769/1368
داؤد المظفر	769/1368
مجد الدین عیسیٰ الظاہر	778/1376
الصالح	809-77/1406-8

### قرا قوینلو کی فتح

دیار بکر کے ارتوقی اوغوز کے ایک قبیلے دوگر کے سردار ارتوق بن ایکسب کی اولاد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارتوق پہلے اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف لڑا، اور پھر سلجوق سلطان ملک شاہ نے اسے دیگر ترکمانوں کی طرح سلطنت کے بیرونی کناروں..... شام، بحرین اور خراسان..... میں بھیجا۔ آخر میں وہ فلسطین کا گورنر بنا، لیکن اس کے بیٹے وہاں فاطمیوں اور صلیبیوں کا مقابلہ نہ کر پائے اور اس کی بجائے حصن کیفا اور ماردین کے گرد دیار بکر میں آباد ہو گئے۔ ال غازی بن ارتوق نے آہستہ آہستہ اس خطے میں سلجوق علاقوں پر قبضہ کیا؛ وہ ایدیا میں فرانکوں کا پر جوش مخالف تھا، اور اس نے 515/1121 میں میافارقین بھی حاصل کر لیا۔ تب کے وہاں سلطنت کی دو شاخیں موجود ہیں: ماردین اور میافارقین میں ال غازی کی نسل اور حصن کیفا اور پھر آمید میں اس کے بھائی سوکمن کی اولادیں۔

ترکمانوں پر مشتمل ارتوقی سلطنت نے ایک ترکمان ریاست کے طور پر بہت سے امتیازی ترکمانی خصوصیات برقرار رکھیں۔ تاہم، یہ بھی لگتا ہے کہ ارتوقیوں نے ترکمان عناصر پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیار بکر کی آبادی میں متعدد عیسائیوں کے ساتھ بھی مصالحانہ رویہ اختیار

کیا۔ زنگیوں کے ظہور نے ارتوقیوں کے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ روکی اور انھیں نورالدین زنگی کے تابعدار بننا پڑا۔ اس کے بعد وہ ایوبیوں کے آگے حصن کیفا، آمید اور میافارقین ہار بیٹھے۔ تیرھویں صدی میں وہ کچھ عرصہ کے لیے رومی سلجوقوں اور خوارزم شاہ جلال الدین منکبرنو کے باجگزار رہے؛ اور انجام کار صرف مارودین شاخ پچی رہ سکی۔ قراارسلان المظفر نے منگول خان ہولنگو کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تقریباً ڈیڑھ سو برس بعد سلطنت کا خاتمہ تیموری حملوں کے دوران آنے والے ترکمان خانہ بدوشوں کی نئی لہر کے ساتھ مربوط تھا۔ آخری ارتوقیوں کو قرا توینلو فیڈریشن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 811/1408 میں الصالح کو مارودین قرا توینلو رہنما قرا یوسف کے حوالے کرنا پڑا۔

## 48- زنگی (521-619/1127/1222)

الجزیرہ اور شام

### 1- مرکزی سلسلہ موصل اور حلب میں

عمادالدین زنگی بن اق سونقر	521/1127
سیف الدین غازی اول	541/1146
قطب الدین مودود	544/1149
سیف الدین غازی دوم	564/1169
عزالدین مسعود اول	572/1176
نورالدین ارسلان شاہ اول	589/1193
عزالدین مسعود دوم	607/1211
نورالدین ارسلان شاہ دوم	615/1218
ناصرالدین محمود	616-19/1219-22

اقتدار پر وزیر بدر الدین نولو کا قبضہ



## 2-دمشق اور اس کے بعد حلب میں سلسلہ

نورالدین محمود بن زنگی

541/1146

نورالدین اسماعیل

569-77/1174-84

موسل کے ساتھ دوبارہ اتحاد، اور پھر صلاح الدین کی فتح

زنگی کا باپ اق سونقر سلجوق ملک شاہ کا ترک غلام کمانڈر اور حلب کا گورنر (487/1086 تا 487/1094) تھا۔ زنگی کے نام کے مطلب کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ غالباً اس کا مطلب کالا افریقی ہی تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہو۔ 521/1127 میں سلطان محمود نے زنگی کو موسل کا گورنر اور اپنے دو بیٹوں کا سرپرست یا ایامیک مقرر کیا۔ مغرب کی سلجوق سلطنت کے اندر غیر تسلی بخش حالات اور دیگر نیم خود مختار ایامیک حکومتوں کے ظہور نے زنگیوں کو نمایاں حیثیت حاصل کرنے میں مدد دی۔ زنگی موسل میں اپنے مرکز موسل کے ذریعہ مغرب میں الجزائرہ کے راستے شام اور شمال میں کردستان تک توسیع اختیار کرنے کے قابل تھا۔ مختلف مواقع پر اس نے سلجوق سلطان کی مخالفت کی اور مقامی عرب اور ترکمان امیروں کے ساتھ لڑا۔ اس نے بازنطینیوں اور فرانکوں سے بھی لڑائی کی، اور 539/1144 میں ایدیا پر قبضہ کر کے سنی دنیا کا ہیرو بن گیا۔

جب زندگی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے مقبوضات کو اس کے بیٹوں نورالدین محمود اور سیف الدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ بعد ازاں خاندان کی ایک الفخ شاخ نے سنجار میں کوئی تیس برس تک حکومت کی۔ شام اور فلسطین میں فرانکوں اور انحطاط پذیر فاطمیوں کے خلاف نورالدین کی پالیسی نے صلاح الدین کے کیریئر اور ایوبی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کی۔ بعد میں زنگیوں کی شام شاخ کو موسل والی شاخ میں ضم کر لیا گیا، اور تب زنگی ناگزیر طور پر ایوبیوں کے خلاف ہو گئے۔ صلاح الدین نے 578/1182 اور 581/1185 میں موسل پر قبضہ کرنے کی دو مرتبہ کوشش کی ناکام رہا، لیکن مسعود اول بن مودود کو شرائط ماننے اور ایوبیوں کے بالادستی تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔

زنگیوں کا خاتمہ موسل میں ارسلان شاہ اول کے سابق غلام بدرالدین لوعلو کی سرفرازی کے

ساتھ مربوط تھا جس نے حکمران کی وفات کے بعد بادشاہت سنبھال لی تھی۔ جب آخری زنگی ناصر الدین محمود فوت ہوا تو لوعلو نے موصل میں اتابیک کی حیثیت اختیار کر کے خود کو الملک الرحیم کہلوانا شروع کر دیا، اور 567/1259 میں اپنی وفات تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد منگول وہاں غالب آگئے۔

#### 49- الدیگوزی یا ال دیگیزی (531-622/1137-1225)

آذربایجان

شمس الدین الدیگوز	531/1137
نصرت الدین پہلوان محمود	570/1175
مظفر الدین قزل ارسلان عثمان	581/1186
قتلغ رنج	587/1191
نصرت الدین ابوبکر (581/1186 سے	591/1195
لے کر آذربایجان کے حکمران کے ماتحت)	

اوزبیک

607-22/1210-25

خوارزم شاہان کی فتح

ایلدیگوزی یا الدیگیزی اہل اتابیک سلطنت تھے جنہوں نے بارہویں صدی کے نصف آخر کے دوران بیشتر آذربایجان، اران اور شمالی جبال سمیت سارے شمالی فارس پر اپنا اختیار قائم کیا۔ اس دور میں مغربی فارس اور عراق کی سلجوق سلطنت زوال آمادہ تھی اور وہ خود مختار علاقائی حکومتیں بننے کا عمل روکنے کے قابل نہ تھی۔

ایلدیگوزی بالاصل سلجوق وزیر سیرومی کا ترک غلام سپاہی تھا جو بعد ازاں سلطان مسعود بن محمد کے پاس چلا گیا اور اران کا گورنر بنا۔ سلطان طغرل دوم بن محمد کی بیوہ کے ساتھ شادی نے اسے 556/1161 میں اس کے بیٹے ارسلان کے بعد تخت نشین ہونے کے قابل بنایا، اور ارسلان کے عہد حکومت میں بھی ایلدیگوزی پس پردہ کام کرنے والی اصل طاقت تھے۔ ان کے علاقے جنوب

میں اصفہان، اور شمال میں شروان اور جارجیا کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان طغرل سوم بن ارسلان کو کئی برس تک ایلدیگوزیوں کی زیر سرپرستی رکھا گیا۔ ایک موقع پر تو ایلدیگوزیوں نے سلطنت پر دعویٰ بھی جتا دیا۔ لیکن سلطان طغرل سوم نے 587/1191 میں بساط الٹ دی اور اپنی زندگی کے آخری تین برس کے دوران ایک خود مختار پالیسی پر عمل کرنے میں کامیاب رہا۔ ایلدیگوزی تیرھویں صدی کی پہلی چوتھائی سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ انھوں نے آذربائیجان میں کچھ دن گزارے اور اپنے قدیم دشمنوں، مراگھا کے احمدیوں کی اتابیک سلطنت کا تختہ الٹنے میں کامیاب رہے، لیکن 622/1225 میں خوارزم شاہ جلال الدین منکمرنوں نے اوزبیک بن پہلوان محمد کو معزول کر دیا۔ چنانچہ خاندان کی تاریخی اہمیت عظیم سلجوقوں کے آخری برسوں کے دوران شمال مغربی فارس پر ان کے کنٹرول کے حوالے سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے جارجیائی حکمرانوں کے خلاف مسلمان فاتحین کا کردار بھی ادا کیا۔

### 50- سلغوری (1270-1148/668-543)

#### فارس

مظفر الدین سونقر	543/1148
مظفر الدین زنگی	556/1161
دیکیل (وکلا)	570/1175
تغرل	590/1194
عزالدین سعد اول	601/1203
ابوبکر قتلغ خان	628/1231
سعد دوم	658/1260
محمد	658/1260
محمد شاہ	660/1262
سلجوق شاہ	661/1263
آبش خاتون	663-8/1265-70

## براہ راست منگول حکومت

سلغوریوں کی اتابیک سلطنت نے فارس میں سلجوقوں اور اس کے بعد تیرہویں صدی میں خوارزم شاہان اور منگولوں کے باجگواروں کے طور پر کوئی 120 برس تک حکومت کی۔ وہ نسلًا ترکمان تھے اور لگتا ہے کہ سلغور یا سلور قبیلہ سلجوق حملے کے موقع پر مغرب کی جانب آیا اور رومی سلطنت قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سلطنت فارس کے بانی سونقر نے سلجوق سلطان مسعود بن محمد کے عہد کی گڑبڑ اور جھگڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوبی فارس میں اپنی حیثیت کو مستحکم کیا۔ فارس پہلے ہی کچھ عرصے کے لیے ترکی اتابیک بوزابا کے کنٹرول میں رہ چکا تھا۔ سلجوقوں کے انحطاط کے ساتھ سلغوری فارس میں ایک متواتر قبضہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے مقامی شبان کارئی کردوں کے خلاف چڑھائی کی اور پڑوسی کرمان سلجوقوں کے مابین جانشینی کے جھگڑوں میں مداخلت کرتے رہے۔

فارس نے عزالدین سعد بن زنگی کے دور حکومت میں کافی خوش حالی دیکھی، اگرچہ بعد میں اسے خوارزم شاہان کی تابعداری اختیار کرنا پڑی۔ فارسی شاعر سعدی کا تخلص سعد دوم سے ہی ماخوذ ہے۔ اس کا باپ سعد اول کے دربار میں تھا۔ سعد کے بیٹے اور جانشین ابوبکر کے دور حکومت میں فارس منگول خان اوگیدی اور اس کے بعد ہولنگو کا مطیع ہوا، اور ابوبکر نے منگولوں سے ہی قتلغ خان کا لقب حاصل کیا تھا۔ انجام کار آخری سلغوری شہزادی، قتلغ کی پوتی نے ہولنگو کے بیٹے مینگو تیمور سے شادی کر لی اور مینگو نے سلغوری علاقوں پر بذات خود قبضہ کر لیا۔

51- اسماعیلی یا اساسینی

فارس (483-653/1090-1256)

شام (1273-1100/671-493 اندازاً)

مرکزی سلسلہ فارس کے کوہ البرز میں الموت کے مقام پر؛ زیلی شاخ شام میں

عظیم آقا الموت میں

حسن الصباح

483/1090

کیا بزرگ امید	518/1124
محمد اول	532/1138
حسن دوم علاء ہکر بھی السلام	557/1162
نور الدین محمد دوم	561/1166
جلال الدین حسن سوم	607/1210
علاؤ الدین محمد سوم	618/1221
رکن الدین خورشاه	653-4/1255-6

### الموت پر منگولوں کا قبضہ

اسلامی قرون وسطیٰ میں بنیاد پرست سنی اہم پند شیعہ اسماعیلیوں کو باعث خوف سمجھتے تھے۔ چونکہ اسماعیلیوں نے مختلف نوع دلچسپیوں اور نظریات کا احاطہ کیا ہوا تھا اس لیے بہت سی سماجی اور سیاسی بغاوتوں میں ان کے ملوث ہونے پر شبہ کیا جاتا تھا۔ فارس اور شام میں نزاری شاخوں نے مذہب کے نام پر ایذائیں دینے کا ہتھیار استعمال کیا (یہ مشرق کا ایک قدیم دستور تھا) اور اپنے پہاڑی قلعوں میں سے حملے کیے۔ ان ذرائع سے ایک دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حتیٰ کہ اسماعیلیوں کی گنتی اور بظاہر ہر جگہ موجودگی نے عوامی تخیل میں بیجا اہمیت اختیار کر لی۔

شمالی فارس اور شام میں اسماعیلی گروہوں کا بانی حسن الصباح ایک فارسی داعی تھا جس نے اپنی سرزمین میں اسماعیلیت کی تبلیغ کا مقصد اختیار کیا۔ 487/1094 میں المستنصر کی وفات پر فاطمی تحریک عقائد کے لحاظ سے دوصوں میں بٹ گئی تو مشرقی اسماعیلیوں نے متوفی خلیفہ کے سب سے بڑے بیٹے اور نامزد کردہ ولی عہد نزار کو تسلیم کر لیا، البتہ اس کی بجائے وزیر بدر جمالی المستنصر کو تخت پر بٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ حسن 483/1090 میں ہی کوہ البرز میں الموت کی قلعے پر قبضہ کر چکا تھا۔ یہ خطہ دہلیم اور آذربائیجان سے ملحق تھا جہاں بنیاد پرستی طویل عرصہ سے فروغ پا رہی تھی۔ یہاں سے عظیم سلجوق سلطنت کے مختلف حصوں میں اسماعیلی تحریکیں منظم کی گئیں۔ شام کے پہاڑوں میں ایک اور موج قائم ہوئی جس کی قیادت الموت کے جاسوس (ایٹلی میٹیس emissaries) کر رہے تھے، اور شامی اسماعیلیوں نے فرائقوں اور سنی مسلمانوں کے ساتھ تہری جدوجہد میں ایک اہم کردار

ادا کیا۔ چونکہ اسماعیلی تعداد میں نسبتاً کم تھے اس لیے براہ راست فوجی کارروائی کی بجائے عموماً سرکردہ افراد کے قتل کو ہی بہتر خیال کیا گیا۔ ان کے مبینہ اہداف میں وزیر نظام الملک، خلیفہ المستر شد صلیبی Conard of Montferrat بھی شامل تھے۔ مارکو پولو اور دیگر کی بیان کردہ کہانی کے مطابق اساسینی جرأت مندانہ اقدامات کرنے کے لیے وجد آور ادویات استعمال کرتے تھے۔ (لفظ اساسینی اصل میں حشیہوں یا حشیشین، یعنی حشیش کھانے والے، سے ہی ماخوذ ہے۔) لیکن کسی بھی مستند اسماعیلی ذریعے سے اس کی توثیق نہیں ہو سکی۔ اسماعیلی روایت کے مطابق یوزار اور اس کے بیٹے کو مصر میں قتل کیا گیا، لیکن ایک شیرخوار پوتا کسی نہ کسی طرح فارس سے باہر پہنچا دیا گیا۔ حسن صباح اور اس کے دو جانشینوں نے محض یوزاری اماموں کے نمائندے ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ حسن دوم نے بذات خود روحانی مفہوم میں امام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

تیرھویں صدی میں اساسینیوں کی انتہا پسندی اور تشدد میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہوئی۔ عباسی خلیفہ الناصر نے حسن سوم کو سنی عقائد کا دوبارہ پیروکار بنا کر ہم عصر مسلم دنیا میں زبردست تبلیغی کامیابی حاصل کی۔ فارس کے اسماعیلیوں نے خلافت کے حق میں یہ پالیسی جاری رکھتے ہوئے خوارزم شاہان کے سامراجی عزائم کی مخالفت کی۔ لیکن آخری اساسینی خورشاه ہولیکو منگولوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا؛ الموت پر 654/1256 میں قبضہ ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ خورشاه کو فاتحین نے اگلے ہی برس مار ڈالا۔ شامی اسماعیلی مقامی سیاسی منظر کا ایک قبول شدہ حصہ بن گئے تھے۔ وہ 624/1227 میں عیسائی Knight Hospitaller کے باجگوار بنے، لیکن سلطان بھرس نے ان کے وجود کے ناقابل برداشت خیال کیا، اور 671/1273 تک آخری اساسینی مرکز الکھف مملوکوں کے قبضے میں آ گیا۔

ساتواں حصہ

## اناطولیہ اور ترک

52- روم کے سلجوق (1307-1077/707-470)

اناطولیہ

سلیمان بن قشمش	470/1077
وقفہ حکمرانی	479/1086
قلج ارسلان اول	485/1092
ملک شاہ	500/1107
رکن الدین مسعود اول	510/1116
عزالدین قلج ارسلان دوم (اس کے دور حکومت کے نصف آخر کے دوران سلطنت کے علاقوں کی اس کے بیٹوں کے درمیان تقسیم)	551/1156
غیاث الدین کبخر اول، پہلا دور حکومت	588/1192
رکن الدین سلیمان دوم	592/1196
عزالدین قلج ارسلان سوم	600/1204
غیاث الدین کبخر اول، دوسرا دور حکومت	601/1204
عزالدین کیاؤسی اول	607/1210
علاء الدین کیقباد اول	616/1219
غیاث الدین کبخر دوم	634/1237
عزالدین کیاؤسی دوم	644/1246
کیاؤسی دوم اور اس کے بھائی رکن الدین قلج ارسلان چہارم کی مشترکہ حکومت	646/1248

کیکاؤس دوم، قلعہ ارسلان چہارم اور علا	647/1249
الدین کیقباد دوم کی مشترکہ حکومت قلعہ ارسلان چہارم	655/1257
غیاث الدین کنخسرو سوم	663/1265
غیاث الدین مسعود دوم، پہلا دور حکومت	681/1282
علا الدین کیقباد سوم، پہلا دور حکومت	683/1284
مسعود دوم، دوسرا دور حکومت	683/1284
کیقباد سوم، دوسرا دور حکومت	692/1293
مسعود دوم، تیسرا دور حکومت	693/1294
کیقباد سوم، تیسرا دور حکومت	700/1301
مسعود دوم، چوتھا دور حکومت	702/1303
کیقباد سوم، چوتھا دور حکومت	704/1305
غیاث الدین مسعود سوم	707/1307

### منگول قبضہ

جب سلطان الپ ارسلان کے خلاف سلجوق سردار قتلکش کی بغاوت (456/1064) کامیاب ہو گئی تو اس کے بیٹے اور ترکمانی پیروکاروں کو عراق اور فارس سے اناطولیہ کی جانب نکال دیا گیا جہاں بازنطینیوں کے ساتھ جنگ و جدل کے وافر مواقع موجود تھے۔ تقریباً (470/1077) میں سلیمان نکایا (ازنک) کا مالک تھا، لیکن ابھرتی ہوئی کومنی سلطنت (جسے بعد ازاں اولین صلیبیوں نے مدد دی) مغربی اناطولیہ میں اپنی حیثیت دوبارہ منوانا شروع ہو گئی اور سلیمان نے مشرق کا رخ کیا۔ اس نے Antioch-Aleppo خطے میں ایک مضبوط مرکز حاصل کرنے کی کوشش کی مگر (479/1086) میں سلطان ملک شاہ کی فوجوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ چند برس بعد ہی برک یاروق نے سلیمان کے بیٹے قلعہ ارسلان اول کو رہائی دے کر واپس اناطولیہ جانے کی اجازت دی۔ قلعہ ارسلان دیار بکر اور الجزیرہ میں کچھ کرنے کا عزم رکھتا تھا لیکن



وہ بھی وہاں لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے جانشینوں نے اپنی طاقت کو وسطی اناطولیہ میں ہی مرکوز رکھا۔ یہاں سے اس نے دانشمندیوں، سلیشیا کے آرمینیائی بادشاہوں اور ایدیا کے فرائکوں پر حملہ کیا۔ قلعہ ارسلان دوم نے دانشمندیوں کا تختہ الٹا اور 572/1176 میں ماریوسیفالون کے مقام پر اس کے ہاتھوں مینول کو مینیس کی شکست نے مشرق میں قبضے کی باز نطنی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ لیکن بڑھاپے میں اس کے بیٹے منہ زور ہو گئے، علاقے منتشر ہونے لگے اور 586/1190 میں شہنشاہ فریڈرک بارباروسا اور تیسرے صلیبیوں نے عارضی طور پر دارالحکومت کونیہ پر قبضہ کر لیا۔

1204ء میں قسطنطنیہ کی لاطینی فتح نے روم کے سلاطین کو اپنی طاقت کے قیام نو کا ایک موقع فراہم کیا۔ اناطولیہ اور سینوپے پر قبضہ کر کے الانیہ یا علاعیہ (سلطان علاؤ الدین کیقباد اول کی نسبت سے) کی بندرگاہ تعمیر کی گئی۔ ساحلوں پر اس کنٹرول کی وجہ سے بحیرہ اسود کے ساتھ ایک اہم ٹرانزٹ ٹریڈ کو فروغ ملا اور اطالوی شہری ریاستوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ سلجوق کونیہ کی تعمیراتی اور فنی رفعتوں کا تعلق اسی دور سے ہے۔ تاہم 638/1240 میں بابا اسحاق کی درویش بغاوت داخلی بے چینی کی علامت تھی، اور جب منگولوں نے اناطولیہ پر حملہ کیا تو سلجوقوں نے کوسیداغ کے مقام پر شکست کھائی (641/1243)۔ سلطنت نے اپنی خود مختاری قائم رکھی، لیکن منگولوں کو بھاری خراج دینا پڑا اور کچھسردوم کے بیٹوں کی باہمی چپقلش کے نتیجہ میں بادشاہت لخت لخت ہو گئی۔ منگولوں کا اختیار بڑھتا گیا..... بالخصوص 675/1276 میں وسطی اناطولیہ میں مملوک سلطان عہرس کی مہم جوئی کے بعد..... جس کے باعث ایل خالی ابا قاناطولیہ میں وارد ہوئے۔ 702/1302 تک کے سکوں پر بھی سلجوق سلاطین کے نام ملتے ہیں لیکن انہیں کوئی حقیقی حاکمیت حاصل نہ تھی۔ تاہم پندرہویں صدی کے عثمانی روزناموں میں بھی ایک سلجوق نسل کا ذکر ملتا ہے۔

## 53- دانشمندی (464-573/1071-1177)

وسطی اور مشرقی اناطولیہ

## 1- سواس شاخ (464-570/1071/1174)

ملک دانشمندی غازی	464/1071 اندازاً
امیر غازی گمشدگان	477/1084
ملک محمد	529/1134
ملک عماد الدین دھو النون، پہلا دور حکومت (کیسری میں)	536/1142
ملک نظام الدین بنی بسن	537/1142
ملک مجاہد جمال الدین غازی	560/1164
ملک شمس الدین ابراہیم	562/1166
ملک شمس الدین اسماعیل	562/1166
ملک دھو النون، دوسرا دور حکومت (اس مرتبہ ناصر الدین کے خطاب کے ساتھ)	564-70/1168-74

روم کے سلجوق

## 2- ملانیہ شاخ (537-573/1142-78)

عین الدین بن گمشدگان	537/1142
دھو القرنین	547/1142
ناصر الدین محمد، پہلا دور حکومت	557/1162
فخر الدین قاسم	565/1170
آفریدون	567/1172
ناصر الدین محمد، دوسرا دور حکومت	570-3/1175-8

روم کے سلجوق

اس ترکمانی سلطنت کا اصل مرکز شمالی اناطولیہ میں تھا۔ اس کا بانی دانشمند سلجوق سلیمان بن قہقہ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی گڑبڑ کے دوران اناطولیہ میں غازی کے طور پر ظاہر ہوا، اور جلد ہی دانشمندی اولین صلیبیوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آئے۔ دانشمند ایک رزمیہ داستان کا مرکزی کردار ہے جو تقریباً دو سو برس بعد لکھی گئی۔ اس رزمیہ میں اس کا تعلق ابتدائی مسلمان مجاہد سید بطل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ دانشمندیوں کے ماخذ کا تعین کرتے وقت حقیقت اور افسانے کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بارہویں صدی کی ابتدا میں امیر غازی گمشدگان نے رومی سلجوقوں کے جانشینی کے تنازعات میں دخل اندازی کی، سیلیسیا میں آرمینیوں اور کاؤٹی آف ایڈیا میں فرانکوں کے خلاف لڑا، اور 521/1127 میں کیسری و انقرہ پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں کے ساتھ ان کی جنگ وجدل کے باعث خلیفہ مسترشد نے دانشمندیوں کو "ملک" کا خطاب دیا۔

لیکن 536/1142 میں ملک محمد کی وفات پر اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے درمیان لڑائی ہونے لگی: بنی بسن نے سو اس میں امیر ہونے کا اعلان کر دیا، اس کا بھائی عین الدین ایلبستان اور ملاتیہ میں تخت نشین ہوا اور دھوالنون نے کیسری پر قبضہ جمالیا۔ چنانچہ ایک وقت میں دانشمندیوں کی تین متحارب شاخیں موجود تھیں۔ لیکن بنی بسن کی موت کے بعد سلجوق قلعج ارسلان دوم نے سو اس شاخ کے امور میں کئی بار دخل اندازی کی اور بالآخر 570/1174 میں دھوالنون کو قتل کر کے اس کی مقبوضات ہتھیالیں۔ ملاتیہ میں دھوالقرنین کے تین بیٹے برسر پیکار تھے، اور یہاں کے آخری حکمران ناصر الدین نے قلعج ارسلان دوم کے باجگوار کی حیثیت میں حکومت کی۔ 573/1178 میں قلعج ارسلان دوم نے بذات خود ملاتیہ پر قبضہ کر لیا۔ مورخ ابن بھی کے مطابق باقی ماندہ دانشمندی سلجوقوں کی خدمت میں آ گئے۔

#### 54- قرمانی (1483-1256/888-654 اندازاً)

وسطی اناطولیہ

قرمان بن نوراصوفی

654/1256

محمد اول

660/1261

بدرالدین محمود	677/1278
برہان الدین موسیٰ	?
فخرالدین احمد	?
شمس الدین	750/1349
علاء الدین خلیل	753/1352
علاء الدین بن خلیل	783/1381
عثمانی قبضہ	792-805/1390-1403
محمد دوم	805/1403
مملوک قبضہ	822-4/1419-21
محمد دوم، (بحالی)	824/1421
علاء الدین علی	827/1424
تاج الدین ابراہیم	827/1424
اسحاق	868/1463
پیر احمد	869/1464
پیر احمد اور قاسم، مشترکہ طور پر	874/1479
قاسم	879-88/1474-83

### عثمانی تسخیر

قرمانی اناطولیہ کی طاقتور اور پائیدار ترین ترک سلطنت تھی جس نے عثمانیوں کے پہلو بہ پہلو ترقی پائی لیکن انجام کار انہی میں ضم ہو گئی۔ لگتا ہے کہ وہ ترکمانوں کے افشار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قرمان کا باپ نور ایک مقبول عام صوفی شیخ تھا؛ چنانچہ یہ سلطنت بھی درویش ماخذ کی حامل دیگر اناطولیائی حکومتی سلسلوں جیسی ہی ہوگی۔ اس سلطنت کا اصل مرکز شمال مغربی کوہ تارس میں ارمینیک کے مقام پر تھا جہاں وہ کونیہ کے سلجوق سلطان رکن الدین قلج ارسلان چہارم کے پاجگوار تھے۔ اس دور میں وہ مملکوں اور منگولوں کی طرف سے بھی پریشان تھے، لیکن چودھویں صدی میں

انہوں نے ایک قطعی خود مختار ریاست تشکیل دی اور وسطی یا جنوبی اناطولیہ کے مختار بن گئے۔ ان کا صدر مقام کرمان فنی اور ثقافتی سرگرمی کا اہم مرکز بن گیا؛ اور کم از کم جدید ترکی کی نکتہ نظر کے مطابق قرمانیوں نے حکومتی نظم و نسق کے لیے فارسی کی بجائے ترکی زبان کی حوصلہ افزائی کر کے کچھ شہرت حاصل کی۔

ناگزیر طور پر توسیع پذیر عثمانیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا اور 792/1390 میں علاؤ الدین خلیل کواق چے کے مقام پر بایزید کے ہاتھوں شکست ہوئی اور قرمانی علاقوں کا الحاق کر لیا گیا۔ لیکن 805/1402 میں تیمور نے انقرہ کے مقام پر بایزید کو شکست دے کر بہت سی ایسی اناطولیائی حکومتوں کو بحال کر دیا جنہیں عثمانیوں نے ہڑپ کر لیا تھا۔ ان میں قرمانی سلطنت بھی شامل تھی۔ عثمانیوں کے ساتھ جھگڑے جاری رہے کیونکہ اب وہ سلاطین کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ قرمانیوں نے عثمانی توسیع پسندی کے خلاف میڈی ٹریمنین کی طاقتوں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ لیکن جانشینی کے داخلی جھگڑوں نے عثمانی مداخلت کو ممکن بنایا اور سلطنت کچھ ہی عرصہ بعد معدوم ہو گئی۔

### 55- عثمانی (680-1342/1281-1924)

اناطولیہ، بلقان اور عرب علاقے

عثمان اول بن ارطغرل	680/1281
اورخان	724/1324
مراد اول	761/1360
بایزید اول یلدرم ("بجلی کا کوندا")	791/1389
تیموری حملہ	804/1402
محمد اول چلبلی (پہلے صرف اناطولیہ اور	805/1403
816/1410 کے بعد رومیلیا میں بھی)	
سلیمان اول (813/1410 تک صرف	805/1403
رومیلیا میں)	

مراد دوم، پہلا دور حکومت	824/1421
محمد دوم فاتح، پہلا دور حکومت	848/1444
مراد دوم، دوسرا دور حکومت	850/1446
محمد دوم، دوسرا دور حکومت	855/1451
بایزید دوم	886/1481
سلیم اول یوز (the Grim)	918/1512
سلیمان دوم قانونی (یعنی قانون دہندہ، مغرب میں اسے سلیمان عالی شان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے)۔	926/1520
سلیم دوم	974/1566
مراد سوم	982/1574
محمد سوم	1003/1595
احمد اول	1012/1603
مصطفیٰ اول، پہلا دور حکومت	1026/1617
عثمان دوم	1027/1618
مصطفیٰ اول، دوسرا دور حکومت	1031/1622
مراد چہارم	1032/1623
ابراہیم	1049/1640
محمد چہارم	1058/1648
سلیمان سوم	1099/1687
احمد دوم	1102/1691
مصطفیٰ دوم	1106/1695
احمد سوم	1115/1703

محمود اول	1143/1730
عثمان سوم	1168/1754
مصطفیٰ سوم	1171/1757
عبدالحمید اول	1187/1774
سلیم سوم	1203/1789
مصطفیٰ چہارم	1222/1807
محمود دوم	1223/1808
عبدالماجد اول	1255/1839
عبدالعزیز	1277/1861
مراد پنجم	1293/1876
عبدالحمید دوم	1293/1876
محمد پنجم راشد	1327/1909
محمد ششم وحید الدین	1336/1918
عبدالحمید دوم (صرف خلیفہ کی حیثیت میں)	1341-2/1922-4

### مصطفیٰ کمال کی ری پبلکن حکومت

عثمانیوں کا ابتدائی دور قصوں اور افسانوں سے معمور ہے اور 1300ء سے قبل کے چند ایک ہی تاریخی حقائق معلوم ہیں۔ لگتا ہے کہ اس خاندان کا تعلق اوغوز کے قاخ قبیلے سے تھا اور وہ ایشیائے کوچک میں ایک خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہے تھے۔ یوں وہ مشرق سے آنے اور بازنطینیوں کی جانب سے واپس دھکیل دیئے جانے والے ترکمانوں کی بہت بڑی لہر کا ہی ایک حصہ تھے۔ عثمانی کونیہ کے سلجوق سلاطین کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رکھتے تھے، لیکن منگولوں کے ظہور اور تیرہویں صدی کے دوران سلجوقوں کے انحطاط نے انہیں واپس اناطولیہ کے شمال مغربی کونے میں جانے پر مجبور کر دیا۔ جب اناطولیہ کے دیگر علاقوں میں ترک Principalities قائم کی جا رہی تھیں تو عثمانی بازنطینیوں کے ساتھ مصروف پیکار تھے۔ مشرق سے آنے والے نئے ترکمانوں

کی وجہ سے ان کی طاقت کو تقویت ملتی رہی کیونکہ وہ مہاجرین عیسائیوں کے خلاف غازی بننے کے مشتاق تھے۔ اسی جذبہ جہاد کے ذریعہ سلطنت عثمانیہ نے عسکری رویہ اور جوش و خروش حاصل کیا جس نے انہیں توسیع اختیار کرنے کی اجازت دی۔ انجام کار انہوں نے تمام دیگر ترک حکومتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔

758/1357 میں عثمانیوں نے گالی پولی کے مقام پر یورپ میں قدم رکھا اور بلقان سیلاویوں کے عدم اتحاد اور آرتھوڈوکس و کیتھولکس کی مذہبی دشمنیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ بلقانوں کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ ان فتوحات کو ملا کر رومیلیا کا صوبہ بنایا گیا۔ عثمانیوں کا اپنے دار الحکومت کو بصرہ سے Edrine منتقل کرنا بھی اس بات کا اظہار تھا کہ وہ ایشیا کی بجائے یورپ میں اپنا مرکز بنا رہے ہیں (767/1366)۔ عسکری اعتبار سے انہوں نے اپنے ترکمانی پیروکاروں پر انحصار کم کر دیا۔ 796/1394 میں بایزید اول نے قاہرہ کے عباسی خلیفہ المتوکل اول سے سلطان روم کا خطاب حاصل کیا، لیکن اس کی ایشیائی سلطنت کو تیمور کے اچانک حملے نے پارہ پارہ کر دیا۔ تیمور نے 805/1402 میں سلطان کو انقرہ کے مقام پر شکست دی۔ بعد کے عشروں کے دوران ایشیائے کوچک میں عثمانی سلطنت کے کلڑوں کو دوبارہ جوڑا گیا، اور 857/1453 میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔

سولھویں صدی سلطنت کا عہد زریں تھی۔ 923/1517 میں سلیم the Grim (ہیبت ناک) نے انحطاط پذیر مملوکوں سے شام اور مصر چھین لیا۔ 932/1526 میں Mohacz کی فتح کے بعد سلیمان عالیشان نے زیادہ تر ہنگری کو تقریباً ڈیڑھ سو سال کے لیے عثمانی حکومت کے ماتحت کر دیا۔ مشرقی سرحدوں پر سنی عثمانیوں کے شدید مخالف شیعہ صفویوں کو 920/1514 میں کالدیران کے مقام پر شکست دی گئی اور آذربائیجان پر حملہ کیا گیا؛ بحیرہ ہند میں ترک بحری قوتوں نے پرتگیزیوں کے خلاف کارروائیاں کیں۔

اپنی طاقت کے اس عہد عروج میں عثمانیوں نے سلطنت کے اندر موجود مذہبی و نسلی اقلیتوں کے لیے برداشت کا رویہ اپنایا۔ سترھویں صدی میں مشرقی یورپ کے ترکوں کے لیے حالات خراب ہونے لگے۔ وہ یورپی طاقتوں کی تیس سالہ جنگ میں مصروفیت کا زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے اور ان کی



واحد بڑی کامیابی کریت کا حصول تھا۔ تاہم 1094/1683 میں ترکوں کو ویانا سے نکال دیا گیا۔ یورپی تقسیموں اور رقابتوں نے عثمانی سلطنت کو مزید دوسو برس کی مہلت دے دی کیونکہ یورپیوں کی تکنیکی صلاحیت نے انہیں ایک واضح عسکری و بحری برتری دلا دی تھی۔ غیر منضبط جاسیری کافی عرصہ سے ترک افواج کی جدیدیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور کہیں 1241/1826 میں آکر ہی محمود دوم نے ان کی طاقت کا خاتمہ کیا۔ معاشی اعتبار سے ترک اور عرب علاقوں کو اعلیٰ مغربی مصنوعات اور تجارتی تکنیکوں کے ساتھ مقابلہ بازی میں نقصان اٹھانا پڑا۔ مقامی پیداوار گھٹ گئی، آمدنی کے اندرونی ذرائع کم ہو گئے اور انیسویں صدی میں ترکی دیوالیہ پن کی حالت کو پہنچ گیا۔

روسی توسیع پسندی ایک خصوصی خطرہ تھی، کیونکہ روسیوں نے عثمانیوں کے حلیف کریمیائی تاتاریوں کو مطیع بنا لیا تھا اور اب استنبول و بوسفورس پر کنٹرول حاصل کرنے کو بے قرار تھے تاکہ میڈی ٹرینین تک رسائی حاصل کر سکیں۔ انیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں البانوی سپاہی محمد علی مصر کا خود مختار حاکم بن گیا؛ یونانیوں نے بغاوت کی اور 1829ء تک اپنی خود مختار حیثیت کو منوالیا۔ الجیریا فرانسیسیوں کو مل گیا۔ قوم پرستانہ جذبات کے فروغ (انقلاب فرانس کے نتیجہ میں) نے بلقانیوں کو ترک حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا اور 13-1912ء کی دوسری جنگ بلقان کے اختتام پر ترکی یورپ میں صرف مشرقی تھریس تک محدود ہو کر رہ گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں ”مرکزی طاقتوں“ کی جانب سے ترکی کی شمولیت کے باعث عربی علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور یورپی طاقتوں کو اصل ترکی علاقے کے دعویدار بننے کی تحریص ہوئی۔ لیکن ان طاقتوں کے لالچ نے ترکی قومی جذبات کو ہوا دی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں پہلی عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 1922ء اور پھر 1924ء میں خلافت کا خاتمہ کر کے آخری عثمانی عبدالماجد کو معزول کر دیا گیا۔

## منگول

### منگول یا چنگیزی

منگولوں کی ریکارڈ کی ہوئی تاریخ کا آغاز بارہویں صدی کے آخر اور تیرہویں صدی کے آغاز سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ صرف بارہویں صدی کی ”منگولوں کی خفیہ تاریخ“ اور چند چینی و فارسی تحریروں میں ہی ان کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم، لگتا ہے کہ منگول اصل میں ساہیریریا اور بیرونی منگولیا کی جنگوں کے رہنے والے جنگل باسی تھے۔ وہ گھوڑوں پر تیزی کے ساتھ چڑھنے میں مہارت رکھتے تھے۔

چنگیز کا باپ سیوگائی منگول قبیلے کا خاں تھا۔ چنگیز کا اصل نام تموجن (لوہار) تھا اور وہ منگولیا میں kereyt قبیلے کے سردار تو عزل یا اونگ خان کی سرپرستی میں نمایاں ہوا۔ بعد میں تموجن کا اونگ خان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور اس نے جنگ میں پہلے اونگ خان اور پھر ایک منگول دشمن جموٹا کو شکست دی۔ وہ پہلے ہی چنگیز کا لقب حاصل کر چکا تھا اور 1206ء میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اس نے تمام منگول عوام کا اعلیٰ ترین سردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ (”چنگیز“ غالباً ترکی لفظ تنگیز سے ماخوذ ہے جس کا مطلب سمندر ہے۔ یوں ہم چنگیز کا مطلب ہمہ گیر لے سکتے ہیں)۔ اب اس نے شمال مشرقی چین میں کنسو اور اوردوس خطوں کے تبتی منگوتوں کے خلاف مہمات کا بیڑا اٹھایا اور 1213ء میں چین خاص پر حملہ کیا، 1215ء میں پکنگ کو لوٹا اور چینی شہنشاہوں کی حیثیت کو کمزور کیا۔ 1218ء میں شمالی ترکستان میں سمرچہ کے حملے نے چنگیز کو اسلامی خوارزم شاہان کے علاقوں کے ساتھ ایک مشترکہ سرحد دے دی۔ پرامن سفارتی رابطے پہلے سے موجود تھے، لیکن 615/1218 کے واقعہ اترار (جب خوارزمی گورنر نے چنگیز کے ایلچیوں اور ان کے ہمراہ مسلمان تاجروں کے سارے کاروان کو قتل کر دیا) نے اسلامی دنیا پر منگول حملے کی بنیاد فراہم کر دی۔ 616-17/1219-20 میں ورائے جنوں فتح کیا گیا؛ چنگیز کے بیٹے تولوئی کو

خراسان میں بھیجا گیا اور افغانستان میں پروان کے مقام پر عارضی پساپی کے بعد آخری خوارزم شاہ جلال الدین کا ہندوستان میں تعاقب کیا گیا (618/1221)۔ دریں اثناء دو دیگر افراد، جوچی اور چغتے زیریں سیر دریا اور خوارزم کے علاقہ میں شاہان کے وطن کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ جلال الدین نے اپنی زندگی کے باقی دن ایک بھگوڑے کے طور پر بسر کیے۔

منگول سرداروں کی روایت تھی کہ وہ اپنے علاقوں کے حصے دیگر اہل خانہ کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے اور چنگیز خان نے یہ کام اپنی وفات سے قبل 624/1227 میں کیا۔ اس نے ان میں سے ہر ایک کو چراگاہ کا ایک ایک خطہ الاٹ کیا تاکہ وہ وہاں اپنے گلے چرا سکیں۔ خود منگولوں کے فتح کردہ علاقے اتنے وسیع تھے کہ ایک مرکزیت کی حامل ریاست کے طور پر ان پر حکومت نہیں کی جاسکتی تھی، اور منگول خود بھی سیاسی اور انتظامی اعتبار سے کافی پسماندہ تھے۔ اس وقت تک منگول زبان تحریری صورت میں موجود نہ تھی۔ چنانچہ مفتوحہ زمینوں کے لیے فوری طور پر ایک بیورو کر لیا گیا تاکہ خوانین کے لیے ٹیکس اکٹھا کیا جاسکے۔ اوئی غور، فارسی اور چینی علاقوں کے حکمران طبقات سرفراز ہوئے اور بدھ مت اور سیکرٹری، ”بخشی“ خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ منگولوں اور ان کی تاریخ کے بارے میں ہماری زیادہ تر معلومات دو فارسیوں یعنی عطا ملک جوینی اور رشید الدین فضل اللہ کی مرہون منت ہیں۔

چنگیز کی زمینیں اس کے چار بیٹوں جوچی، چغتے، اوگیدی اور تولوئی کے درمیان تقسیم ہوئیں۔

## 56- منگول عظیم خان، اوگیدی اور اولیوی کی نسل (چین کی سلطنت یوآن)

603-1043/1206-1634

منگولیا اور شمالی چین

چنگیز خان

603/1206

اوگیدی

624/1227

تورجین، بطور ریجنٹ

639/1241

گوئوک	644/1246
ادغول غیش، بطور ریجنٹ	647/1249
مونگکے (ینگو)	649/1251
قبلائی	658/1260
تیوراویچتو	693/1294
قیشان گولاک	706/1307
آپور پری بھدر یوینو	710/1311
سدھی پل گیجن	720/1320
یسون تیمور	723/1323
اریگابا	728/1328
جگستو توق تیمور	728/1328
قشیل قفتو	729/1329
رچن پل (ارنجل)	732/1332
توغان تیمور	932-71/1332-70

تولونی کی اولاد کا سلسلہ صرف منگولیا میں سترھویں صدی تک جاری رہا، لیکن چین میں خانوں کی جگہ 1368 میں منگ سلطنت نے لے لی اور گیدی کی حکومت میں شمالی چین یعنی جن سلطنت فتح ہوئی اور کوریا کو بھی ساتھ ملا یا گیا۔ 1279ء میں جنوبی چین میں منگ سلطنت کا تختہ الٹا گیا۔ ”قدیم جنگ“ کے خاتمہ پر تو جنوبی روس کی چراگاہوں اور وسطی یورپ پر حملے کر کے قرون وسطی کی عیسائی دنیا کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ اگرچہ اوگیدی کے بیٹے گوپوک کی بہت سی اولادیں تھیں، لیکن مطلق حکومت (647/1249) میں اس کی وفات کے بعد ایک اور شاخ یعنی مونگکے اور تولونی کی اولادوں کو مل گئی۔ جب چین میں مونگکے کے بھائی قبلائی نے مہا خان ہونے کا دعویٰ کیا تو اوگیدی نسل نے بغاوت کر دی، اور قید و اور چہرے سرکردگی میں کافی عرصہ تک مہا خانین کے لیے باعث پریشانی بنے رہے۔

انجام کار انہوں نے تولوئی کے خاندان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن بعد کے ادوار میں اوگیدی گھرانے کے مختلف افراد نے شورش و افراتفری کے مواقع پر اقتدار حاصل کیا۔

قراقرم میں، اور ہونگکے عہد کے بعد پینگ یا خان بلیق (خانوں کا شہر) میں مہاخوانین نے بربری انداز کی زندگی گزاری۔ اس امر کا پتہ ہمیں سیاحوں کی تحریروں سے چلتا ہے۔ منگول فتوحات سے حاصل شدہ مادی دولت اور لوٹ مار صرف صدر مقامات میں مرکوز تھی، اہل ہنر وہاں جمع ہو گئے، اور محققین، مصنفین اور مذہبی رہنماؤں نے خوانین کے ڈیروں کا رخ کیا۔ منگولوں نے چراگاہوں کی روایتی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاطینی و نسٹوری عیسائیوں، مسلمانوں بودھیوں اور کنفیوشس پسندوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ ناگزیر طور پر منگولوں کے اصل ارواح پرستانہ شامن ازم کی جگہ (منگولیا اور چین میں) تبتی لامازم نے لے لی۔ یہ آج بھی مشرقی ایشیا کے منگولوں کا اکثریتی مذہب ہے۔

منگول مہاخوانین آہستہ آہستہ بربری ماخذ کی حامل ایک اور چینی سلطنت ”یوان“ کی صورت اختیار کر گئے۔ انہوں نے چین میں 1368ء تک حکومت کی۔ تب ان کی جگہ منگ نے لے لی۔ لیکن اس وقت تک وہ وسطی و مغربی ایشیا کی منگول حکومتوں پر زیادہ تر کنٹرول کھو چکے تھے۔ مہاخوانین کی اولادیں صرف منگولیا خاص میں ہی کچھ خود مختاری کی مالک رہیں۔ تاہم منگ شہنشاہ ان کے سرپرست تھے۔

## 57- چغتائی، چغتے کی نسل

624-771/1227-1370

ورائے جیحون، سمرچے اور شمالی ترکستان

چغتے	624/1227
قراہولیکو، پہلا دور حکومت	639/1241
یسوونگکے	645/1247
قراہولیکو، دوسرا دور حکومت	650/1252

اور قبیلہ خاتون	650/1252
الوغو	659/1261
مبارک شاہ	664/1266
برق	664/1266
نگو بے (نی کے)	670/1271
تقا تیمور	670/1272
دوا	690/1291
کون چیک	706/1306
تالیقو	708/1308
کیپیک (کو پک)، پہلا دور حکومت	709/1309
ایسن بقا	709/1309
کیپیک، دوسرا دور حکومت	718/1318
الچی گیدی	726/1326
دوا تیمور	726/1326
علا الدین ترمشیرین	726/1326
چنگ شی	734/1334
نُون	735/1334
یسون تیمور	739/1338
محمد	743/1342
قزان	744/1343
دانش میندجی	747/1346
بیان قلی	749/1348
شاہ تیمور	760/1359

## تیموری فتوحات

چنگیز کی وفات کے بعد چغتے سب سے بڑے بیٹے اور منگول قبائلی قانون کے مصدقہ ماہر کی حیثیت میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ بلاشبہ مسلمانوں کا زبردست مخالف تھا، اور اس نے قبائلی قانون یا یس (yasa) کے وہ اصول لاگو کرنے پر اصرار کیا جو اسلامی شریعت کے برعکس تھے، مثلاً جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ چغتے کے یرت نے کوہ تیان شان کے دونوں طرف حاکمیت حاصل کر لی تھی لیکن چغتائی سلطنت چغتے کی اپنی موت کے بعد ہی وجود میں آسکی۔ اس کے بیٹے اور پوتے باہم برسر پیکار ہوئے اور مہمان خان ہونگکے کے خلاف سازش کی۔ ولیم بروک کے مطابق ساری منگول سلطنت ہونگکے اور تہو کے درمیان تقسیم تھی۔ چغتائی حکومت کا حقیقی بانی چغتے کا پوتا الفو تھا جس نے ہونگکے کے بیٹوں قبلائی اور عریق بو کے درمیان خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر خوارزم، مغربی ترکستان اور افغانستان پر قبضہ کر لیا۔

چغتائی اسلام سے زیادہ فارس کے منگولوں یعنی ال خانوں سے متاثر تھے اور انہوں نے اپنے خانہ بدوشانہ اور قبائلی طور طریقے طویل عرصہ تک برقرار رکھے؛ ان حقائق نے غالباً وسط ایشیا میں شہری زندگی اور زراعت کے عمومی انحطاط میں حصہ ڈالا۔ مبارک شاہ (666/1266) باقاعدہ اسلام قبول کرنے والا پہلا چغتائی تھا، لیکن 690/1291 کے بعد Duwa اور اس کی اولادیں کثرت پرست ہو گئیں جو مشرقی علاقوں میں آباد تھیں۔ ورائے چیجون میں سب سے پہلے کیوک واپس آیا اور وہاں نقشبندی قرشی کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کیا۔ ترم شیریں (جس کا نام ایک بدھسٹ نام دھرم شیل کی فارسی صورت ہے) مسلمان ہو گیا لیکن مشرقی حصے کے شدید اسلام مخالف خانہ بدوش منگولوں نے بغاوت کر کے اسے مار ڈالا (734/1334)۔ اس کے فوراً ہی بعد چغتائیوں کا اتحاد پارہ پارہ ہونے لگا، اور ورائے چیجون میں تیمور نے سر اٹھایا۔ ورائے چیجون میں باری باری کئی چغتائی اور پھر اوگیدی کی نسل کے کچھ افراد تخت نشین ہوئے۔ چغتائی خاندان بچنے میں کامیاب ہو گیا اور تیمور کی وفات کے بعد اس نے ایسن بقادوم کے ماتحت (62-67/1429-833) ورائے چیجون میں دوبارہ بحالی حاصل کی۔ ایسن بقا آخری تیموریوں کا خطرناک دشمن ثابت ہوا۔ لیکن انجام

کاراس کی ورائے جیحون کی مقبوضات شیبانیوں کو مل گئیں۔

## 58- ال خانی، قبلائی کے بھائی ہولیگو کی نسل

654-754/1256-1353

فارس

ہولیگو (ہولاگو)

657/1256

ابقا

663/1265

احمد تیگودر (تگودار)

680/1282

ارغن

683/1284

کیکھتو

690/1291

بیدو

694/1295

محمود غزن

694/1295

محمد خدا بندہ اولجیتو

703/1304

ابوسعید

717/1317

ارپا

736/1335

موسیٰ

736/1335

جلایری امیر حسن بزرگ اور چوپانی امیر حسن

کوچوک کے نامزد کردہ متعدد متحارب خانوں کا دور

اس کے بعد فارس کو مقامی سلطنتوں میں تقسیم کر دیا

مگیا ہشتا جلایری، مظفری خراسان کے سربراہی۔

736-54/1336-53

مہا خان موٹکے نے اپنے بھائی ہولیگو کو مغربی ایشیا میں منگول فتوحات کو بحال اور متحد کرنے کا

کام سونپا تھا کیونکہ چنگیز خان کی موت کے بعد سے ورائے جیحون کے جنوب کی زیادہ تر اسلامی دنیا

منگولوں کے براہ راست اختیار سے نکل گئی تھی۔ چنانچہ ہولیگو مغرب کی جانب آیا۔ اس نے



اسماعیلیوں یا شمالی فارس کے اساسینیوں کی مدافعت کو ختم کیا (654/1256) عراق میں ایک خلافتی فوج بھیجی اور بغداد کے آخری عباسی المعتصم کو قتل کر دیا (656/1258)؛ اور شام میں پیش قدمی کی، تاہم وہاں منگولوں کو شکست ہوئی اور مصر کے مملوکوں نے فلسطین میں عین الجالوت کے مقام پر ان کی راہ روک دی (658/1260)۔ اب ہولگومہا خان کی جانب سے فارس، عراق، کاشیا اور اناطولیہ کے سارے خطے کا حکمران بن گیا اور اس نے ال خاندان یعنی ”مہا خان کے نائب“ کا خطاب اختیار کیا۔

اب ال خاندان کی بادشاہت تشکیل پذیر ہوئی، لیکن اس کے بہت سے بیرونی دشمن تھے، بشمول مملوکوں کے جنہوں نے منگولوں کے ناقابل شکست ہونے کے عام خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ سنہری جتھے کے دیگر منگول گھرانے اور چغتائی بھی بالترتیب کاشیا اور شمال مشرقی ایران میں علاقوں کے مسئلے پر جارحیت اختیار کئے ہوئے تھے۔ یہ ال خانیوں کے خلاف مشترکہ دشمنی تھی جس نے مملوکوں اور سنہری جتھے کو سیاسی اور تجارتی لحاظ سے متحد کر دیا، جبکہ ال خانیوں نے یورپی عیسائی طاقتوں، لیوانٹ کوسٹ کے صلیبیوں اور سلیشیا کے آرمیوں کے ساتھ ایک مسلمان مخالف اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ ہولگومہا کی بیوی دو قز خاتون ایک نسطوری عیسائی تھی، اور ابتدائی ال خانی یقیناً بدھ مت اور عیسائیت کے حق میں تھے۔

ال خانی خود کو بیرونی دشمنوں کے سامنے قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن قبلائی خان کی وفات (693/1294) کے بعد چین کے عظیم خوانین کے ساتھ رابطے کمزور پڑ گئے، بالخصوص اس وقت جب فارسی گردو پیش کے ثقافتی و مذہبی دباؤ کے باعث غزن خان اور اس کے جانشینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابوسعید آخری عظیم ال خانی تھا۔ اس نے (723/1323) میں مملوکوں کے ساتھ امن قائم کر کے شام کی خاطر لڑائی کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کی سلطنت داخلی نفاق کا شکار ہوئی اور وہ بد قسمتی سے کوئی جائز وارث چھوڑے بغیر مر گیا۔ اس کی وفات کے بعد کے برسوں میں کئی خوانین مختصر عرصے کے لیے جانشین بنے، انہیں دشمن جلایری اور چوپانی امیروں نے تخت پر بٹھایا اور انجام کار ال خانی سلطنت کھڑے کھڑے ہو گئی اور اس کی جگہ مقامی سلطنتوں نے لے لی۔ فارسی زمینوں کو بعد ازاں تیمور نے اپنے ماتحت دوبارہ متحد کیا۔

زبردست جنگ وجدل اور کھینچا تانی کے باوجود ال خانی عہد فارس کے لیے خوشحالی کا دور تھا۔ غزن کے قبول اسلام سے منگول ترک حکمران طبقے اور ان کے فارسی محکومین کے درمیان ایک مصالحتی عمل شروع ہوا۔ ال خانی صدر مقامات تبریز اور مراگھا علم و فن کے گڑھ بن گئے جہاں فطری علوم اور تاریخی تحریروں کی بالخصوص سرپرستی کی گئی۔ 707/1307 کے بعد اویغٹو نے قزوین کے نزدیک سلطانیہ کے مقام پر ایک نیا دارالحکومت بنانے کا منصوبہ بنایا؛ فن کاروں اور معماروں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ال خانی طرز تعمیر کا ایک جداگانہ انداز ظہور میں آیا۔ منگولوں کے بین الاقوامی رویے، عیسائی یورپ اور چین جیسی نہایت مختلف تہذیبوں کے ساتھ ان کے رابطوں نے فارسی دنیا پر تازہ فکری، تجارتی اور فنی اثرات مرتب کیے؛ مثلاً اب دارالحکومت تبریز میں اطالوی تاجروں کی کالونیاں بننے لگیں، اور ال خانی سلطنت نے مشرقی بعید اور ہندوستان کے ساتھ تجارت میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔

59- سنہری جتھے کے خان، جوچی کی اولاد

(623-907/1226-1502)

جنوبی روس اور مغربی سائبیریا

1- بتوئی کی نسل، جنوبی روس اور مغربی قپچاق میں نیلے

جتھے کے خان

بتو بن جوچی	624/1227
سرتق	653/1255
اویغچی	654/1256
برک (برکہ)	655/1257
مونگکے (مینگو) تیمور	665/1267
تودے مونگکے	679/1280
تولے بقا	686/1287

غیاث الدین تو قزو	689/1290
غیاث الدین محمد اوز بیک	712/1312
تینی بیک	742/1341
جانی بیک (جام بیک)	742/1341
طوائف الملوکی کا دور جس میں محمد بردی بیک، قلپا اور نوروز بیک محمد تخت کے وعودار تھے۔	758-82/1357-80
<b>2- اوردا کی نسل، سائیریا اور مشرقی قباچاق؛ اور 780/1378 کے</b>	
<b>بعد نیلے جتھے اور سفید جتھے کی جنوبی روس کے سنہری</b>	
<b>جتھے کی صورت میں مشترک حکومت</b>	
اوردا بن جوچی	723/1226
کوچو	679/1280
بیان	701/1302
ساسیقا (یا سارغ بقا)	708/1309
لبسن	715/1315 اندازاً
مبارک خواجہ	720/1320
جمعے	745/1344
اُرس	762/1361
تقیقیہ	777/1375
تیمور ملک	777/1375
غیاث الدین تو قتمش	778/1376
تیمور قتلغ	797/1395
شادی بیک	803/1401
پولاد	810/1407

تیمور	813/1410
جلال الدین	815/1412
کریم بردی	815/1412
کیبیک	817/1414
جبار بردی	820/1417
اولغ محمد، پہلا دور حکومت	822/1419
دولت بردی	823/1420
برق	825/1422
اولغ محمد دوسرا دور حکومت (بعد ازاں قازان میں)	832/1427
یہ تینوں متحارب خان تھے	
سید احمد اول	838/1433 اندازاً
کوچک محمد	840/1435 اندازاً
احمد	871/1465
شیخ احمد	886/1481
سید احمد دوم	886/1481
مرتضی [شیخ احمد، سید احمد اور مرتضیٰ تینوں شریک حکمران تھے]۔	886/1481

907/1502 میں کریمیا کے گرے خانوں کے ہاتھوں شیخ احمد کی شکست،

اور باقیماندہ سنہری جتھے کا کریمیائی تاتاری جتھے میں ادغام  
چگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو مغربی سائبیریا اور قپچاق سٹیپی کا علاقہ اس کی  
”یرت“ (Yurt) کے طور پر الاٹ کیا گیا تھا، اور (624/1227) میں اس کی وفات پر مغربی  
سائبیریا اس کے بڑے بیٹے اوردا کو مل گیا جس نے اپنے علاقوں میں سفید جتھے بنایا۔ سفید جتھے  
کے ابتدائی خوانین کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں لیکن پرعزم اور طاقتور تو قتمش (وفات

809/1406) کافی اہم فرد ہے۔ اس نے بتوئی نیلے جتھے (جسے آج ہم سنہری جتھے کے طور پر جانتے ہیں) کو سفید جتھے کے ساتھ متحد کیا اور سنہری جتھے کو ایک مرتبہ پھر روس کی اہم طاقت بنا دیا، اور (784/1382) میں زنی نووگورود اور ماسکو کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ تاہم، بد قسمتی سے اس کا سامنا تیمور سے ہو گیا جس نے اسے اس کے دارالحکومت سرائے (Saray) سے دو لگا کی جانب بھگا دیا۔ اور تو قتمش کو مجبوراً لیتھوینیا کے ویتولڈ کے پاس پناہ لینا پڑی۔

جوچی کی میراث کا مغربی نصف، خوارزم اور جنوبی روس کا قچاق سٹیپس اس کے بیٹے بتو کو ملا۔ بتو نے نووگورود کے علاقے تک روس میں لوٹ مار کی، کیو پر قبضہ کیا، اور پولینڈ و ہنگری پر حملہ کیا۔ عیسائی یورپ بتو کی فوج کی لیکمز کے مقام پر 638/1241 میں فتح اور بیلا چہارم کی ایڈریاٹک ساحلوں کی جانب روانگی کے بعد مزید آفات سے بچ گیا۔ دارالحکومت سرائے کو بنیاد بنا کر بتو کا نیلا جتھہ سنہری جتھے کا مرکزہ بن گیا۔ اوزبیک کی وفات (742/1341) کے بعد سنہری جتھے کے تمام خوانین مسلمان تھے اور اس کا مطلب ہے کہ حکمران جتھے اور ان کے عیسائی روسی محکومین کے درمیان ایک گہری مذہبی غلیج حاصل تھی، اگرچہ لاطینی عیسائی مبلغین نے قچاق سٹیپس میں کچھ عرصہ تک کام جاری رکھا۔ جتھے کے اناطولیہ اور شام و مصر میں مملوک سلطنت کے ساتھ اہم تجارتی رابطے تھے؛ مملوکوں کو غلام فراہم کیے جاتے رہے، جبکہ جتھے کی ثقافت نے اسلامی تاثر حاصل کیا جو ال خانیوں کے عین برعکس تھا۔ تاہم عثمانی طاقت کی بڑھوتری اور 755/1354 کے بعد ان کے Dardanelles پر کنٹرول نے انہیں میڈی ٹرینین سے کاٹ دیا اور وہ خالصتاً روسی طاقت بن کر رہ گئے۔

تو قتمش کی وفات کے بعد سنہری جتھے میں اصل طاقت ”محل کے میسر“ ایڈیگو کے پاس تھی لیکن اس کی وفات (822/1419) کے بعد ایک انتشار اور بد نظمی کا عمل شروع ہوا۔ عثمانی اور ان کے حلیف کریمیائی تاتاری بھی جارحیت پسندانہ عزائم رکھتے تھے۔ کریمیائی خان میننگلی گرے نے ہی (907/1502) میں سنہری جتھے کو شکست دی۔ لیکن اس سے پہلے ہی دیگر خوانین سنہری جتھے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔

## 60- شیبانی، جوچی کی اولادیں (98-1500/9051007)

ورائے جیحون

ابوالخیر (خوارزم کا حکمران)	832-73/1429-68
محمد شیبانی (ورائے جیحون کا فاتح)	905/1500
کوچ کنجو	916/1510
منظرالدین ابوسعید	937/1531
ابوالغازی عبید اللہ	940/1534
عبداللہ اول	946/1539
عبداللطیف	947/1540
نوروز احمد	959/1552
پیر محمد اول	963/1556
اسکندر	968/1561
عبداللہ دوم	991/1583
عبدالمؤمن	1006/1598
پیر محمد دوم	1007/1598

بخارا میں ان کی جگہ استراخان کے سابق خانوں، جانیوں نے لے لی جب تو قش اور اس کا سفید جتھہ مغرب کی جانب بڑھا جنوبی روس میں سنہری جتھے کے ساتھ اتحاد کر لیا تو مغربی سائبیریا جوچی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی اولادوں کو مل گیا جنہیں شیبانی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان کی ایک شاخ سترھویں صدی تک تیمن کے خوانین کی حیثیت سے سائبیریا میں ہی رہی لیکن زیادہ تر شیبانی جتھہ ورائے جیحون چلا گیا جہاں وہ اوز بیک کہلانے لگے۔ وہ موجودہ دور کے ازبکستان ایس ایس آر کے مقامی باشندوں کے اجداد تھے۔ (851/1447) میں ابوالخیر نے تیموریوں سے خوارزم لے لیا اور (906/1500) میں اس کے پوتے محمد شیبانی نے آخری تیموریوں کو شکست دے کر ورائے جیحون پر قبضہ کر لیا۔ سولہویں صدی کے دوران سنی

شیبانیوں نے فارس کے شیعہ صفویوں کے ساتھ متواتر لڑائی جاری رکھی اور ان کے اتحاد میں دیگر سنی طاقتیں (مثلاً عثمانی اور ہندوستان کے مغل) بھی شامل ہو گئیں۔ شیبانیوں نے (1007/1598) تک بخارا میں حکومت کی۔ اس کے بعد جوچی کے بیٹے اوروا کی اولادوں اور شیبانیوں کے میرے رشتہ داروں نے اقتدار سنبھال لیا۔ شیبانیوں کی حلیف شاخ عرب شاہیوں نے اٹھارہویں صدی کے اواخر تک خوارزم یا کھیبوا پر حکومت کی۔

### 61- کریمیا کے گرے خان، جوچی کی اولادیں

831-1208/1426-1792

حاجی گرے، پہلا دور حکومت	831/1426 اندازاً
حیدر گرے	860/1456
حاجی دوسرا دور حکومت	860/1456
نور دولت گرے، پہلا دور حکومت	871/1466
مینگی گرے، پہلا دور حکومت	871/1466
نور دولت، دوسرا دور حکومت	879/1474
مینگی، دوسرا دور حکومت	880/1475
نور دولت، تیسرا دور حکومت	881/1476
مینگی، تیسرا دور حکومت	883/1478
محمد گرے اول	920/1514
غازی گرے اول	931/1523
سعادت گرے اول	932/1524
اسلام گرے اول	939/1532
صاحب گرے اول	939/1532
دولت گرے اول	958/1551

محمد گرے دوم	985/1577
اسلام گرے دوم	992/1584
غازی گرے دوم، پہلا دور حکومت	998/1588
فتح گرے اول	1005/1596
غازی دوم، دوسرا دور حکومت	1006/1596
تو قتمش گرے	1016/1608
سلامت گرے اول	1017/1608
محمد گرے سوم، پہلا دور حکومت	1019/1610
جان بیگ گرے، دوسرا دور حکومت	1019/1610
محمد سوم، دوسرا دور حکومت	1032/1623
جان بیگ، دوسرا دور حکومت	1036/1627
عنایت گرے	1044/1635
بہادر گرے اول	1046/1637
محمد گرے چہارم	1051/1641
اسلام گرے سوم	1054/1644
محمد چہارم، دوسرا دور حکومت	1064/1654
عادل گرے	1076/1666
سلیم گرے اول، پہلا دور حکومت	1082/1671
مراد گرے	1089/1678
حاجی گرے دوم	1094/1683
سلیم اول، دوسرا دور حکومت	1095/1684
سعادت گرے دوم	1109/1691
صفا گرے	1103/1691



سلیم اول، تیسرا دور حکومت	1104/1692
دولت گرے، پہلا دور حکومت	1110/1699
سلیم اول، چوتھا دور حکومت	1114/1702
غازی گرے سوم	1116/1704
قیلان گرے اول، پہلا دور حکومت	1119/1707
دولت گرے دوم، دوسرا دور حکومت	1120/1708
قیلان اول، دوسرا دور حکومت	1125/1713
دولت گرے سوم	1128/1716
سعادت گرے سوم	1129/1717
مینگی گرے دوم، پہلا دور حکومت	1137/1724
قیلان اول، تیسرا دور حکومت	1143/1730/
فتح گرے دوم	1149/1736
مینگی، دوسرا دور حکومت	1150/1737
سلامت گرے دوم	1152/1740
سلیم گرے دوم	1156/1743
ارسلان گرے، پہلا دور حکومت	1161/1748
حلیم گرے	1169/1756
قیریم گرے، پہلا دور حکومت	1172/1758
سلیم گرے سوم، پہلا دور حکومت	1178/1764
ارسلان، دوسرا دور حکومت	1180/1767
مقصود گرے، پہلا دور حکومت	1181/1767
قیریم، دوسرا دور حکومت	1182/1768
دولت گرے چہارم، پہلا دور حکومت	1182/1769

قبیلان گرے دوم	1184/1770
سلیم سوم، دوسرا دور حکومت	1184/1770
مقصود، دوسرا دور حکومت	1185/1771
صاحب گرے دوم	1186/1772
دولت چہارم، دوسرا دور حکومت	1189/1775
شاہین گرے، پہلا دور حکومت	1191/1777
کریمیا کاروں کے ساتھ الحاق	1197/1783
بہادر گرے دوم	1198/1784
شاہین، دوسرا دور حکومت	1199/1785
تاریوں کے تحت یا Bessarabia کے خان، عثمانیوں کے نامزد کردہ	
شاہباز گرے	1203/1787
بخت گرے	1205-8/1789-92

جوچی کے بیٹے تو قاتیمور کی اولادوں میں ایک شاخ نے سنہری جتھے کی اندرونی پھوٹ (760/1359 کے بعد) کے دوران کریمیا میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ شروع میں وہ تو قتمش کے باجگوار تھے، لیکن پھر پندرہویں صدی کی ابتدا میں وہ اپنے خان حاجی گرے (وفات 871/1466) کی قیادت میں سنہری جتھے سے بالکل الگ ہو گئے۔ خاندان کا نام غالباً سنہری جتھے کے ایک قبیلے کیرے سے مشتق ہے جس نے حاجی خان کی حمایت کی تھی۔ اب کریمیا کی خانی چنگیز خان کی نسل میں سے ابھرنے والی پائیدار ترین ریاستوں میں سے ایک بن گئی۔

عثمانی گریوں کے فطری حلیف تھے: پہلے سنہری جتھے کے خلاف جس کے خوانین کریمیا کو اپنے ماتحت سمجھتے تھے اور پھر سولہویں صدی کے بعد سے روسیوں کے خلاف۔ گرے سنہری جتھے کے وارث ہونے کے دعویدار تھے اور انہوں نے سولہویں صدی میں کبھی کبھار قازان میں حکومت بھی کی۔ سولہویں صدی کے اواخر میں خوانین یوکرین کے زیادہ تر جنوبی حصے اور زیریں دون کہن خطے پر دارالحکومت بے پنے سرے (سیملر پول) سے حکومت کرنے لگے۔ وہ ایک طرف عثمانیوں اور دوسری

طرف روس اور پولینڈ کے درمیان بفر سٹیٹ بن گئے۔ استنبول پر انحصار کا اظہار سلطان کے دربار میں ایک گرے یرغمالی کو واپس مانگنے کے ذریعہ کیا گیا؛ دوسری طرف ایک مبہم احساس پایا جاتا تھا کہ اگر عثمانی سلطنت ختم ہوگئی تو گرے ترکی میں حکومت سنبھالنے کے دعویدار بن سکتے تھے۔

اٹھارہویں صدی کے دوران بحر اسود اور میڈی ٹرینین کی جانب روسی توسیع پسندی اور عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی کمزوری نے کریمیائی خود مختاری کے دن پورے کر دیئے، اور (1197/1783) میں کیتھرین دی گریٹ کی فوجوں نے کریمیا پر قبضہ کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا؛ تاہم بعد میں ایک یاد دہانی کے طور پر اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔

## منگولوں کے بعد کا فارس

62- مظفری (93-1314/95-713)

مبارز الدین محمد بن المظفر	713/1314
قطب الدین شاہ محمود (اصفہان اور ابرقوہ میں 776/1375 تک)	759/1358
جلال الدین شاہ شجاع (فارس اور کرمان میں؛ 776/1375 کے بعد اصفہان میں بھی)	765/1364
مجاہد الدین زین العابدین علی (تیمور نے 789/1389 میں معزول کیا)	786/1384
عماد الدین احمد (کرمان میں)	786-95/1384-93
نصرت الدین یحییٰ (یزد میں)	789-95/1387-93
منصور (اصفہان فارس اور عراق میں)	789-95/1387-93

### تیموری فتح

سلطنت کے بانی شرف الدین المظفر کو منگول غزن خان نے ”امیر ہزارہ“ یعنی ایک ہزار کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ اس کا بیٹا محمد بھی یزد کا گورنر تھا اور (736/1336) میں ابوسعید کی وفات کے بعد ال خانی سلطنت میں پیدا ہونے والی بد نظمی کے دوران اس نے انجو عید ابواسحاق کے خلاف شدید جدوجہد کر کے فارس میں اپنی مقبوضات کو وسعت دی۔ کرمان کے آخری قتلغ خانی حکمران کی بیٹی کے ساتھ شادی کے ذریعہ وہ کرمان پر بھی قابض ہو گیا۔ 758/1356 تک وہ فارس اور عراق کا غیر متنازع حکمران رہا اور اسے آذربایجان پر حملہ کرنے کی تحریص ہوئی جہاں اس نے تمبریز پر قبضہ تو کر لیا مگر پاؤں نہ جما سکا۔

محمد کو اس کے اپنے ہی بیٹے شاہ شجاع نے معزول کر دیا (شاہ شجاع نے شیراز میں ابواسحاق انجوئی کے بعد شاعر حافظ کی سرپرستی کی)۔ لیکن شاہ شجاع اپنے بھائی محمود اصفہان کے گورنر کے ساتھ اس کی موت تک برسرِ پیکار رہا۔ محمود نے مظفریوں کے پرانے دشمنوں، جلایریوں سے مدد مانگی تھی، اور کم از کم اصفہان حاصل کر لینے کے بعد شاہ شجاع نے آذربایجان میں جلایری حسین بن اولیس کے خلاف فوج کشی کی۔ لیکن اب فارس پر تیمور کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ شاہ شجاع نے فوری طور پر عظیم فاتح کی اطاعت قبول کر لی۔ تاہم اس کے جانشین کوتاہ اندیش تھے۔ شاہ شجاع نے 786/1384 میں اپنی وفات سے قبل اپنی مقبوضات کو اپنے بھائی احمد (کرمان) اور اس کے بیٹے زین العابدین (فارس اور دارالحکومت شیراز) میں تقسیم کر دیا۔ لیکن مظفری علاقوں کے مختلف حصوں کے لیے حکمرانی کے تنازعات نے سلطنت کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا۔ زین العابدین نے ابتدا میں تیمور کی اطاعت اختیار کی، لیکن تیمور نے اصفہان میں عوامی شورشوں کے دوران چھ مصلوں کی ہلاکت کے بعد وہاں حملہ کر دیا۔ آخری مظفری منصور سارے فارس اور عراق پر حکومت کرتا رہا، حتیٰ کہ 795/1393 میں تیمور نے مغربی فارس کی خود مختار سلطنتوں کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا؛ منصور لڑائی میں مارا گیا اور باقی ماندہ مظفریوں کو قتل کر دیا گیا۔

### 63- جلایری (736-835/1336-1432)

عراق، کردستان آذربایجان میں

تاج الدین حسن بزرگ	736/1336
اویز اول	757/1356
جلال الدین حسین اول	776/1374
غیاث الدین احمد	784/1382
بایزید (کردستان میں)	784-5/1382-3
شاہ ولد	813/1410

محمود، پہلا دور حکومت (ملکہ ماں تندو کی زیر نگرانی)	814/1411
اویز دوم	818/1415
محمد	824/1421
محمود، دوسرا دور حکومت	825/1422
حسین دوم	827-35/1424-32

### جنوبی عراق میں قراقویینلو کی فتوحات

جلایری فارس کے ال خانیوں سے آگے کی ریاستوں میں سے ایک تھے۔ لگتا ہے کہ جلایری بالاصل ایک منگول قبیلہ تھا۔ سلطنت کے مقدر کا بانی حسن بزرگ سلطان ابوسعید کی جانب سے اناطولیہ کا گورنر رہ چکا تھا۔ (اسے اس کے دشمن اور رقیب امیروں کے چوپانی خاندانی کے حسن کو چک یعنی چھوٹا سے تمیز کرنے کے لیے بزرگ یعنی بڑا کہا جاتا تھا)۔ وہ انجام کار چوپانیوں پر غالب آیا اور بغداد کو اپنا صدر مقام بنا لیا۔ پھر بھی وہ بدستور 747/1346 تک مختلف ال خانیوں کو اپنے سرپرستوں کے طور پر تسلیم کرتا رہا۔ یہ اس کا بیٹا اولیس ہی تھا جس نے مکمل ذاتی حاکمیت اختیار کی۔

اولیس نے (761/1360) میں آذربایجان فتح کیا اور تنازعات کے شکار مظفریوں پر فارس میں اپنی حاکمیت منوائی، لیکن اس کے جانشینوں کو دیار بکر میں قراقویینلو ترکمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کے ساتھ نمٹنا اور سنہری جتھے کے اولوالعزم خانوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب تیمور شمالی فارس اور عراق میں آیا تو اولیس کے بیٹے احمد نے اس کی مخالفت کی اور اسے بھاگ کر مصر کے مملوکوں کے پاس پناہ لینا پڑی۔ وہ 807/1405 میں تیمور کی وفات کے بعد ہی واپس بغداد آنے کے قابل ہو سکا۔ تاہم تیموری حملوں نے جلایریوں کی حیثیت کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ آذربایجان فوراً ہی قراقویینلو کے ہاتھوں میں چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے 815/1412 میں بغداد بھی لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے جلایری شہزادے صرف زیریں عراق میں واسط، بصرہ اور شستر میں تیموری شاہ رخ کے باجگزاروں کے طور پر ہی رہ گئے۔ حتیٰ کہ 835/1432 میں

حسین دوم کو جگہ کے مقام پر مار ڈالا گیا۔

## 64- تیموری (771-912/1370-1506)

### 1- اعلیٰ حکمران سمرقند میں

تیمور	771/1370
خلیل (812/1409 تک)	807/1405
شاہ رخ (پہلے صرف خراسان میں)	807/1405
اولغ بیگ	850/1447
عبداللطیف	853/1449
عبداللہ مرزا	854/1450
ابوسعید	855/1451
احمد	873/1469
محمود بن ابی سعید	899-906/1494-1500

### شیبانی فتوحات

### 2- اولغ (الغ) بیگ کی موت کے بعد حکمران خراسان

بابر	853/1449
محمود بن بابر	861/1457
ابوسعید	863/1459
یادگار محمد	873/1469
حسین بیقرا	875/1470
بدیع الزماں	912/1506

### 3- تیمور کی وفات کے بعد حکمران مغربی فارس میں

میران شاہ	807/1404
-----------	----------

خلیل

812/1409

عیال

817/1414

ایلنکر

817-18/1414-15

شاہ رخ کے علاقوں کے ساتھ اتحاد

تیمور کا خاندان چنگیز خان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب ماورائے جیحون علاقے میں تعلق تیمور کے چغتائی منگولوں کی نااہلی کے باعث انتشار پیدا ہونے لگا تو اس کا باپ کش میں گورنر تھا۔ تیمور نے ماورائے جیحون کو بیس کمپ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وسیع سلطنت قائم کی اور وہاں چنگیز خان کے بیٹے اوگیدی کی اولاد سو پور غتمش اور محمود کو سردار بنایا۔

تیمور کی ابتدائی مہمات خوارزم اور خراسان میں تھیں جن کے بعد اس نے فارس کو فتح کرنا شروع کیا؛ 797/1395 میں شروع ہونے والی ”پانچ سالہ جنگ“ کے دوران فارس کے مظفریوں کو تباہ کر دیا گیا اور جلایری احمد بن اولیس کو عراق سے نکال باہر کیا گیا۔ تاہم تیمور کی شمالی سرحد کھلی تھی اور استیمپوں (Steppes) میں اس کا زبردست دشمن سفید لشکر کا خان تو قتمش تھا جس نے اپنے جتھے کے منگولوں کو نیلے جتھے کے منگولوں کے ساتھ متحد کر کے سارے قیچاق پر حاکمیت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ تیمور نے 797/1395 میں قیچاق پر حملہ کیا اور ماسکو اور استراخان تک گھس گیا۔ لیکن اس کی اصل کوششیں اسلامی مرکزی سرزمینوں کے امیر علاقوں کے لیے تھیں جہاں اس کی مہمات نے معاصرانہ سیاسی ڈھانچے پر تباہ کن اثرات مرتب کیے تھے۔ 800/1398-99 کی ہندوستانی مہم کے دوران دہلی کو تاراج کر کے تعلقوں کا اختتام قریب لایا گیا اور جونپور، گجرات، مالوہ اور خاندیش جیسی صوبائی خود مختار سلطنتوں کے قیام کا موقعہ فراہم ہوا۔ مغرب میں تیمور کے ہاتھوں 805/1402 میں انقرہ کے مقام پر عثمانی بایزید اول کی شکست نے اناطولیہ کی ترکمانی حکومتوں کو عثمانی سلطانوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے چند مزید عشروں کی مہلت دے دی۔

چین کی جانب روانگی کے موقعہ پر اپنی وفات سے قبل تیمور نے اپنے علاقوں کو بیٹوں اور پوتوں میں بانٹ دیا۔ لیکن اس کی ذات کا خوف ختم ہونے کے بعد تیموریوں کی حیثیت خراسان اور



ورائے جیحون میں مقامی حکمرانوں کی سی ہوگئی۔ ابتداً میں تیمور کے دو بیٹوں جلال الدین میران شاہ اور شاہ رخ خان کے پاس دو بڑی بادشاہتیں تھیں: 1- مغربی فارس اور عراق میں، 2- خراسان اور بعد ازاں ورائے جیحون میں بھی۔ تیمور کی زیادہ تر زندگی عسکری فتوحات میں گزری جبکہ پندرہویں صدی کے تیموریوں نے مشرقی اسلامی دنیا کو ایک شاندار ثقافتی اتحاد دیا جس نے فارسی اور چغتائی ترکی ادب، فن تعمیر، کتاب سازی اور مصوری میں بے مثال کامیابیاں حاصل کیں۔ نیز شاہ رخ کا بیٹا لغ بیگ علم فلکیات میں اپنی دلچسپی کی وجہ سے مشہور ہوا۔

823/1420 تک شاہ رخ نے فارس اور عراق میں تیمور کے تمام سابقہ علاقے لے لیے تھے اور ہندوستان و چین میں بھی اس کے برائے نام نمائندے موجود تھے۔ اس کا عظیم بھتیجا اپنے دور کے نہایت طاقتور حاکموں میں محمد فاتح کے بعد آتا ہے۔ اگرچہ وہ دریائے جیحون کے پار سے اوزبیکوں کے حملوں کو روک نہ سکا اور 873/1468 میں اق قویونلو اُذن حسن کے خلاف قراقویونلو حسن علی کی مدد اور مغربی علاقے (جو شاہ رخ کی وفات پر ہاتھ سے نکل گئے تھے) واپس لینے کے لیے اس کی مہم کا نتیجہ صرف تباہی کی صورت میں نکلا۔ تیموریوں کا آخری حکمران حسین بیقرا تھا جس نے سارے خراسان پر ہرات سے حکومت کی۔ اسی کے دربار میں تیموری ثقافت نے اپنے عروج کے آخری دن دیکھے جہاں جامی اور علی شیر نوائی اور بہزاد جیسے مصور موجود تھے۔

تیموری سپہی سے تعلق رکھنے والی آخری بڑی اسلامی سلطنت تھی؛ عثمانیوں، صفویوں اور مغلوں جیسی آتشیں اسلحہ اور زیادہ بہتر عسکری ٹیکنیکیں استعمال کرنے والی طاقتور ریاستوں کے ظہور نے یوریشین استیمپوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملوں کی حوصلہ شکنی کی۔

## 65- قراقویونلو (782-873/1380-1468)

آذربائیجان اور عراق

قراقرم خزمش	782/1380
قرا یوسف	791/1389
تیموری حملہ	802/1400

قرا یوسف (تخت پر بحالی)

809/1406

اسکندر

823/1420

جہان شاہ

841/1438

حسن علی

872-3/1467-8

اق قوینلو کی تسخیر

قرا قوینلو (لفظی مطلب ”کالی بھیڑ“) کا اتحاد منگول حملوں کے باعث مشرق کی جانب دھکیلے گئے ترکمانی عناصر میں سے ابھرا۔ لگتا ہے کہ ان کا حکمران خاندان اوغوز کے ذیلی قبیلے ایوا میں سے نکلا اور ان کا دار الحکومت وین اور ارمیا جھیلوں کے شمال میں تھا جہاں سے انہوں نے آہستہ آہستہ آذربائیجان اور اناطولیہ کے مشرقی سرحدی علاقوں کو اپنے اختیار میں کر لیا۔

قرا محمد نے جلایری سلطان اولیس کی ملازمت کی لیکن اس کے بیٹے قرا یوسف نے تمبریز پر قبضہ کر لیا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ قرا یوسف نے تیمور کی مخالفت کا بد نصیب فیصلہ کیا اور اسے بھاگ کر مملوک مصر میں جانا پڑا، تمبریز 809/1406 میں ہی کہیں آ کر دوبارہ حاصل ہوا۔ قرا قوینلو نے اس مضبوطی کے ساتھ دوبارہ قائم ہو کر دیار بکر میں اپنے اق قوینلو دشمنوں کے ساتھ جنگ و جدل کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ کاشیا میں جارچیوں اور شیروان شاہان، مغربی فارس میں تیموریوں کے خلاف بھی لڑائی چھیڑی۔ شاہ رخ کے مر جانے کے بعد جہان شاہ نے اپنی حکومت عراق، فارس، کرمان اور حتیٰ کہ اومان تک پھیلائی۔ آخر کار اس نے دیار بکر میں اق قوینلو حکمران اذن حسن پر حملہ کیا لیکن شکست کھائی اور اپنی جان بھی ہار گیا۔ جہان شاہ نے اپنی موت سے دو برس قبل قرا قوینلو کی ایک ذیلی شاخ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا جو قرا یوسف کے دور سے ہی بغداد میں حکومت کرتی آرہی تھی۔ جب جہان شاہ قتل ہوا تو اس کا بیٹا حسن علی جلا وطنی سے واپس تمبریز آیا لیکن قرا قوینلو افواج کی وفاداری حاصل نہ کر سکا اور 873/1468 میں ماہر گیا۔

سیاسی لحاظ سے قرا قوینلو اتحاد عمل میں آنے کا مطلب تھا عراق اور مغربی فارس میں ال خانی حکومت کا خاتمہ اور تیموریوں کا مغرب میں پاؤں نہ جما سکتا۔ نسلی اعتبار سے ترکمانوں کے اتحاد نے اس عمل کو مزید تیز کیا اور آذربائیجان میں ترک نسل اور زبان کا غلبہ ہونے لگا۔ جہاں تک قرا قوینلو

کی مذہبی وابستگی کا تعلق ہے تو انہیں کٹر شیعہ بتایا جاتا ہے، لیکن اس دور کی اسناد اتنی دو ٹوک نہیں۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں مغربی ایشیائی ترکمانوں کے ہاں شیعہ عقائد غالب تھے، جیسا کہ صفویوں کی سرفرازی سے بھی اشارہ ملتا ہے۔

### 66- اق ٹوینلو (780-914/1378-1508)

دیار بکر، مشرقی اناطولیہ، آذربائیجان

قریو لوک عثمان	780/1378
حزہ، اپنے بھائی علی کے ساتھ 842/1438	839/1435
تک برس پیکار رہا	
جہانگیر	848/1444
ازن حسن	857/1453
خلیل	882/1478
یعقوب	883/1478
بیونقر	896/1490
رستم	898/1493
احمد گووڈے	902/1497
مراد (قم میں)	903/1497
الوند (آذربائیجان میں، بعد ازاں 910/1504 میں	903/1498
اپنی وفات تک دیار بکر میں	
محمد میرزا (جبال اور فارس میں 905/1500	903/1498
تک)	
مراد (آخر میں مطلق فرمانروا کے طور پر)	907-14/1502-8

اق قوینلو (لفظی مطلب ”سفید بھیر“) دیار بکر میں مرکز ترکمانوں کا ایک اتحاد تھے۔ ان کے حکومتی درجہ ہائے مراتب کی بنیاد بیوند کے قدیم اوغوز قبیلے پر تھی اور بازنطینی اسناد کے مطابق اس کا ذکر حملہ آور ترمسی زوند کے طور پر ملتا ہے۔ سلطنت کا اصل بانی قرا یولوک عثمان تھا جس کی ماں ایک کومینا تھی، اور جس نے خود ایک بازنطینی شہزادی سے شادی کی تھی؛ ترمسی زوند کے ساتھ سلطنت کے روابط طویل عرصہ تک بہت قریبی رہے۔ قرا قوینلو کے برعکس قرا یولوک نے تیمور کی اطاعت اختیار کی اور اس کی خاطر 805/1402 میں انقرہ کے مقام پر بایزید کے خلاف لڑے۔ قرا قوینلو کافی عرصہ تک مشرق میں آگے نہ جاسکے، لیکن اُذن حسن، سلطنت کا ممتاز ترین رکن، نے آخر کار 872/1467 میں جہان شاہ کو شکست دی۔ تیموری ابوسعید کو شکست دینے کے بعد وہ اق قوینلو کی حکومت کو فارس کے اس پار خراسان اور عراق و خلیج فارس تک توسیع دینے میں کامیاب ہو گیا۔

تاہم، اُذن حسن کے اصل دشمن عثمانی تھے جو پندرہویں صدی میں اناطولیہ کی باقی ماندہ ترک جاگیروں کو قبضے میں لیتے ہوئے مشرق کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ عثمانی مخالف پالیسی نے اسے فرمانیوں کا حلیف بنا دیا، اور اس نے بھی ترمسی زوند (جس کے آخری شہنشاہوں کے ساتھ وہ اپنی بازنطینی بیوی کے ذریعہ تعلق رکھتا تھا) کو محمد فاتح کے حملوں سے بچانے کی کوشش کی۔ اُذن حسن کے دور میں اق قوینلو ایک بین الاقوامی اہمیت کی حامل طاقت بن گئے۔ 868/1464 میں عثمانیوں کے وینسی دشمنوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا گیا اور اسلحہ و بارود وینس سے روانہ ہوا۔ تاہم 878/1473 میں تیرجان کے مقام پر اُذن حسن کی افواج عثمانی توپ خانے کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اسے عبرت ناک شکست ہوئی۔ اس کے بیٹے یعقوب نے جدوجہد جاری رکھی۔ لیکن تب کے بعد سلطنت پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو گئی اور جانشینی کے تنازعات زور پکڑ گئے۔ فرمانی عثمانیوں کے ہاتھ لگ گئے، اور اناطولیہ کے ترکمانوں میں صفویوں کی جانب سے شیعہ پراپیگنڈہ نے سنی اق قوینلو طاقت کی نظریاتی بنیادی کھوکھلی کر دیں۔ 906/1501 میں شاہ اسماعیل نے تک چوان کے نزدیک الوند کو شکست دی، اور آخری اق قوینلو کو بھاگ کر عثمانی سلطان سلیم کے پاس جانا پڑا۔ الوند نے اپنی شکست کے کچھ ہی عرصہ بعد دیار بکر میں مار دین کے مقام پر ایک خود مختار اق

قویٰ نلو حکومت کا خاتمہ کر دیا اور یوں سلطنت کا نام و نشان ہر جگہ سے مٹ گیا۔

### 67- صفوی (1732-1501/1145-907)

فارس

اسماعیل اول	907/1501
طہماسپ اول	930/1524
اسماعیل دوم	984/1576
محمد خدا بندہ	985/1578
عباس اول	996/1588
صفی اول	1038/1629
عباس دوم	1052/1642
سلیمان اول (صفی دوم)	1077/1666
حسین اول	1105/1694
طہماسپ دوم	1135/1722
عباس سوم	1145/1732
سلیمان دوم	1163/1749
اسماعیل سوم یہ تینوں صرف فارس کے مخصوص علاقوں میں برائے نام حکمران تھے۔	1163/1750
حسین دوم	1166/1753
محمد	1200/1786

صفوی ترکی بولنے والے ہونے کے باوجود غالباً کردی نسل سے ہی تھے۔ اس بارے میں ہمیں قابل بھروسہ معلومات میسر نہیں کیونکہ فارس میں ایک مرتبہ اپنی طاقت کو مستحکم کر لینے کے بعد انہوں نے اپنی اصلیت کے حوالے سے ثبوت کو جان بوجھ کر جھٹلا دیا۔ لیکن اس بارے میں کوئی

شک نہیں ہے کہ اناطولیہ، دیار بکر، آذربایجان اور خطے کی متعدد سلطنتوں کی طرح وہ بھی درویشوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ صفی الدین (وفات 735/1334) نے اپنا صوفی سلسلہ صفویہ آذربایجان میں اردبیل کے مقام پر قائم کیا، اور اگرچہ وہ بذات خود غالباً ایک سنی تھا، لیکن اس کے سلسلے نے ایک ایسے علاقے میں فروغ پایا جہاں شیعہ ازم کافی مضبوط تھا؛ چنانچہ بارہویں صدی کے دوران یہ سلسلہ بھی شیعہ ازم کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا۔

اب پہلے قراقوینلو اور اس کے بعد اق قوینلو کی طاقت کا رخ موڑنے کی کوشش میں مشرقی اناطولیہ کے ترکمانوں کے درمیان شدید پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا؛ اور 907/1501 میں اسماعیل بن حیدر نے اق قوینلو سے آذربایجان لے لیا، سارے فارس کو دس سال تک اپنے کنٹرول میں رکھا اور یوں صفوی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ حکومت جلد ہی مذہبی حکومت کا روپ اختیار کر گئی کیونکہ اسماعیل اور اس کے جانشینوں نے نہ صرف حضرت علیؑ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ شیعہ اماموں کی نیم الوہی حیثیت پر بھی زور دینے لگے۔ ان کے حمایتی ترک قبائلیوں (قزلباش) کیونکہ وہ سرخ ٹوپیاں پہنتے تھے۔ قزلباش کا مطلب سرخ سروالے ہے) نے ان کے ساتھ سیاسی کے علاوہ روحانی تعلق بھی قائم کر لیا۔ شیعہ ازم نے ایک ایسے ملک میں ریاستی مذہب کی حیثیت اختیار کر لی جو تب تک (کم از کم سرکاری طور پر) سنی تھا۔ لہذا تاریخ فارس میں صفوی عہد نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دور میں وہاں شیعہ ازم کو استحکام ملا؛ اس عمل کے دوران فارس نے استحکام اور قومیت کا ایک نیا احساس حاصل کیا جس نے اسے موجودہ دور تک اپنی روحانی اور علاقائی وحدت کے ساتھ زندہ رہنے کے قابل بنایا۔

عسکری اعتبار سے شاہ اسماعیل اور اس کے جانشینوں کو اپنے سنی پڑوسیوں کی مسلسل دشمنی کا سامنا کرنا پڑا..... مغرب میں عثمانی اور شمال مشرق میں ترکمان اوزبیک۔ دریائے آکس (جیحون) کی سرحد پر ہرات، مشہد اور سمرخ جیسے سرحدی شہروں کی بنیاد پر اپنا قبضہ قائم رکھا؛ لیکن لوٹ مار اور غلام حاصل کرنے کے لیے ترکمانی حملے انیسویں صدی تک جاری رہے۔ عثمانی زیادہ خطرناک تھے کیونکہ وہ سولہویں صدی میں اپنی طاقت کے نقطہ عروج پر تھے۔ 920/1514 میں چلدران کے مقام پر صفویوں کے خلاف سلیم کی فتح برتر تو پہنانے کی فتح تھی۔ (مصر کے مملوکوں کی

طرح صفوی بھی کافی عرصہ تک توپ خانے اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کرتے رہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد کردستان، دیار بکر اور بغداد عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور آذربائیجان پر بھی کئی بار حملہ ہوا؛ بعد میں صفوی دار الحکومت کو تبریز سے قزوین اور پھر اصفہان منتقل کر دیا گیا۔

انگلینڈ کی ایلزبتھ اول، سپین کے فلپ دوم، روس کے ایوان اور مغل شہنشاہ اکبر کے تقریباً ہم عصر شاہ عباس اول کا عہد صفوی سیاسی قوت اور ساتھ ہی ساتھ صفوی ثقافت اور تہذیب کا بھی نقطہ عروج تھا۔ اس عہد کی تہذیبی کامیابیاں اصفہان کی بے نظیر تعمیراتی خوبصورتیوں میں محفوظ ہیں۔ اس دور میں عثمانیوں کو آذربائیجان سے نکال باہر کیا گیا اور مشرقی کاکیشیا و خلیج فارس پر فارسی کنٹرول مستحکم ہو گیا۔ یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے (اگرچہ عثمانیوں کے خلاف صفوی یورپی اتحاد کا منصوبہ کبھی عملی صورت اختیار نہ کر سکا)، اور تجارتی و ثقافتی روابط بھی بڑھے۔ ریاست میں قزلباش کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ کا توڑ کرنے کے لیے شاہ عباس نے نو مسلم جارجیائی اور سرکاسی (circassian) لوگوں کو غلام حانظوں کے طور پر بھرتی کیا اور اپنے ساتھ ذاتی تعلق کے حامل ترکمانوں کے ایک گروہ کو ترقی دی، جبکہ بڑے قبائل کے سرداروں کو نظر انداز کیا۔

### 68- افشاری (95-1736/1210-1148)

فارس

نادر شاہ، طہماسپ قلی خان	1148/1736
عادل شاہ، علی قلی خان	1160/1747
ابراہیم	1161/1748
شاہ رخ (خراسان میں)	1161-1210/1748-95

زند اور قاجار

نادر شاہ شمالی خراسان میں آباد ایک ترکمان قبیلے افشار کا سردار تھا؛ نادر نے اسی آبائی وطن میں بعد ازاں اپنا قلعہ اور خزانہ ”قلعہ نادری“ تعمیر کیا۔ صفویوں کی آخری سانسوں کے اس دور میں

جب زیادہ تر فارس افغانوں کے ہاتھوں میں تھا، فارس کا اتحاد پارہ پارہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ فارس کو علاقائی طور پر متحد کرنا نادر کا کام تھا، مگر اس نے ملک کو مالی اور معاشی اعتبار سے کھوکھلا کر رکھ دیا۔ نادر صفوی سلطان طہماسپ دوم کی خدمت کے ذریعہ اقتدار تک پہنچا (اور اسی وجہ سے طہماسپ کے غلام یا ”طہماسپ قلی“ کا لقب اختیار کیا)۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فارس میں افغان حملہ آوروں کا صفایا شروع کیا، اور 1140/1727 میں یہ کام مکمل ہونے پر طہماسپ نے اسے خراسان، کرمان، سیستان اور مازندران کا گورنر بنا دیا۔ اتنے وسیع علاقے کا مختار بن جانے کے بعد نادر نے ایک خود مختار حکمران جیسا رویہ اپنا لیا، اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ بیرونی دشمنوں کی جانب متوجہ ہو کر اس نے عثمانیوں کو 1143/1730 میں آذربایجان اور ہمدان سے باہر نکالا اور کاشیا کے راستے داغستان کے اندر تک چلا گیا۔ طہماسپ نے فارس کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ترکی اور روس کے ساتھ معاہدہ کیا تو نادر کو طہماسپ کی معزولی کا بہانہ مل گیا۔ اس نے اس کی جگہ ایک اور کٹھ پتلی صفوی بادشاہ بنایا، اور آخر کار 1148/1736 میں خود شاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ لگتا ہے کہ ایک موقع پر نادر شاہ نے فارس اور ترکی کی قدیم شیعہ سنی دشمنی کو ختم کرنا چاہا اور بارہ اماموں کے شیعہ ازم کی سرکاری حیثیت کے خاتمہ کا اعلان کر کے ایک نیا عقیدہ قائم کیا۔ یہ نیا عقیدہ شیعہ ازم کی ہی تبدیل شدہ صورت تھی جس کے روحانی امام چھٹے امام جعفر الصادق تھے۔ بد قسمتی سے یہ مفادہمتی اقدام عثمانیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا باعث نہ بن سکا۔

متواتر جنگ و جدل کے اخراجات نے نادر شاہ کو ہندوستان میں نہایت کامیاب مہم جوئی (1151-2/1738-9) پر مائل کیا جس کے نتیجے میں مغل شہنشاہ محمد شاہ کو دریائے سندھ کے شمال اور مغرب میں اپنے تمام صوبوں سے دست بردار ہونا اور بہت سا خراج ادا کرنا پڑا۔ لہذا نادر نے فارس کے عوام کو تین سال کے ٹیکس سے مستغنی کر دیا۔ 1154/1741 میں نادر کو قتل کرنے کی کوشش (جس میں اس کے بیٹے رضا قلی کے ملوث ہونے کا بھی شبہ تھا) نے نادر کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا اور اس کی پالیسیاں زیادہ سے زیادہ ظالمانہ اور غلطیوں سے لبریز ہوتی گئیں۔ اس کے عائد کردہ محصولات کے خلاف بغاوتیں ہوئیں اور 1160/1747 میں افشار اور قاجار سرداروں کے ایک گروہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے دو بھتیجیوں نے مختصر عرصہ کے لیے حکومت کی



اور پھر اس کے پوتے شاہ رخ نے مزید نصف صدی تک خراسان پر اقتدار قائم رکھا، لیکن شان و شوکت نادر کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی؛ اب فارس کھوکھلا ہو چکا تھا، اور زندوں کے نسبتاً پر امن اور خوش حال دور کے لیے تیار تھا۔

### 69- زند (1163-1209/1750-94)

#### فارس

محمد کریم خان	1163/1750
ابوالفتح	1193/1779
محمد علی (مشرکہ طور پر)	
صادق (شیراز میں)	1193-5/1779-81
علی مراد (اصفہان میں)	1193-9/1779-85
جعفر	1199/1785
لطف علی	1203-9/1789-94

#### قاجار

نادر شاہ کی موت کے بعد کی افراتفری اور بد نظمی میں مختلف فوجی سربراہوں نے فارس کے صوبوں میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ نادر کے افغان کمانڈر احمد درانی نے قندھار میں ایک اہم افغان ریاست قائم کی جس کی حدود میں نادر کی شمال مغربی ہند کی مقبوضات بھی شامل تھیں۔ خراسان میں نابینا افشاری شاہ رخ نے حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مازندران میں قاجار سردار محمد حسن نے اپنی مقامی حاکمیت برقرار رکھی اور آذربائیجان میں نادر کے ایک اور افغانی جرنیل آزاد نے اپنے قدم جمائے۔ جنوبی فارس میں مرکزی طاقت شروع میں بختیاری رہنما علی مردان تھا جس نے اصفہان پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں ایک کٹھ پتلی صفوی اسماعیل سوم (1163/1750) کو تخت پر بٹھا دیا۔ علی مردان کا لیفٹیننٹ اور حلیف محمد کریم زند تھا (جو کٹر لوری نسل کا ایک سپاہی تھا)۔ علی کے قتل ہونے پر محمد کریم خود ہی جنوبی فارس کا بلا شرکت غیرے حکمران بن بیٹھا۔

آزاد نے محمد کے ساتھ امن قائم رکھا، لیکن موخر الذکر نے فارس میں اپنی طاقت کو استحکام ملنے سے قبل قاجار محمد حسن کے ساتھ طویل جدوجہد کی تھی۔ محمد کریم خان نے کبھی بھی شاہ کا لقب اختیار نہ کیا، بلکہ صفوی اسماعیل سوم کے وکیل (نائب) کے طور پر شیراز سے حکومت کرتا رہا۔ محمد کا تقریباً 30 سالہ دور حکومت کافی اعتدال پسندی کا حامل تھا اور ملک نے بھی ترقی پائی؛ دیگر چیزوں کے علاوہ خلیج فارس میں بشہر (بشار) کے راستہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ لیکن محمد کی موت خاندان کے اندر جانشینی کے تباہ کن تنازعات کے آغاز کا اشارہ تھی۔ انجام کار علی مراد نے تخت حاصل کیا لیکن جلد ہی مر گیا اور جعفر کے عہد میں زند کے قاجار رقیبوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر زندوں کو اصفہان ان کے حوالے کرنا پڑا۔ آخری زند لطف علی خاں (ایک مقبول اور قابل جرنیل) نے قاجاروں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور کچھ عرصہ تک کامیاب رہا، لیکن 1209/1794 میں اسے آغا محمد نے کرمان میں پکڑ کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ یوں سارا فارس قاجاروں کو مل گیا۔

### 70- قاجار (1193-1342/1779-1924)

فارس	
فتح علی خان	1193/1721
محمد حسن خان	1163/1750
حسین قلی خان [یہ تینوں مازندران میں قبائلی سردار۔	1184/1770
آغا محمد	1193/1779
فتح علی شاہ	1212/1797
محمد	1250/1834
ناصر الدین	1264/1848
مظفر الدین	1313/1896
محمد علی	1324/1907

## پہلوی شاہان

ترکمانوں کا قاجار قبیلہ غالباً منگول ادوار میں کاسپیئن کی ساحلی زمینوں میں استرآباد کے قریب مقیم ہوا تھا؛ بعد ازاں وہ ان سات بڑے ترکمان قبیلوں میں سے ایک تھے جنہوں نے صفویوں کی مدد کی اور قزلباش بنے۔ اٹھارہویں صدی کے آغاز میں صفوی سلطنت کے انتشار سے اولوالعزم قاجار سردار فارسی امور میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے لگے۔ انہوں نے نادر شاہ کی جارحیت کا مقابلہ کیا اور اس کی وفات کے بعد شمالی فارس کے اس طرف آذربائیجان تک پھیل گئے جہاں مستقبل کا شاہ آغا محمد 1170/1757 میں حاکم بنا۔ حاکمیت کے لیے جدوجہد میں قاجاروں نے شیراز کے زندوں پر فتح پائی؛ جارجیا پر فارسی بالادستی دوبارہ قائم کی؛ چاہے عارضی طور پر ہی سہی، اور افشاری شاہ رخ کو خراسان سے نکال دیا گیا۔ یوں غضب ناک آغا محمد (جس کی دست درازیوں کی جزوی وجہ یہ تھی کہ جب لڑکپن میں نادر شاہ کے بھتیجے عادل شاہ نے اسے خسی کر دیا تھا) ایک سلطنت کا بانی ٹھہرا۔ اس کے دور میں فارس جدید دنیا میں شامل ہوا اور بین الاقوامی امور میں فوجی اور معاشی لحاظ سے ایک اہم کردار حاصل کیا۔ آغا محمد ہی کے دور میں تہران (جو پہلے درمیانے درجے کا ایک قصبہ تھا) دارالحکومت بنا (1200/1786)؛ اس طرح زندگی کے تمام شعبے مرکز کی جانب بڑھے جو جدید فارس کا ایک خاصہ ہے۔

یورپی طاقتوں کے ساتھ باقاعدہ اور متواتر سفارتی تعلقات کا آغاز فتح علی شاہ کے دور میں ہوا، جب فارس کے ایک طرف برطانیہ اور دوسری طرف نیپولین فرانس تھا کیونکہ فارس مشرق کی جانب جانے والے رستوں پر اہم حیثیت رکھتا تھا۔ مغرب کی جانب سے اس توجہ کا ایک ضمنی نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی فوج میں یورپی ٹیکنیکوں اور تربیت کا تعارف ہوا۔ انیسویں صدی کے دوران سامراجی زار روس ایک مستقل خطرہ بن کر سر پہ منڈلا رہا تھا۔ 1243/1828 میں معاہدہ ترکمان کے تحت فارس مشرقی آرمینیا اور کاکیشیا میں تمام مقبوضات سے دست کش ہو گیا لیکن وسط ایشیا میں روسی پیش قدمی نے فارس کی مشرقی سرحد کو مزید خطرے میں ڈال دیا۔ کافی عرصہ تک قاجار صفویوں اور نادر کی چھوڑی ہوئی مشرقی تسخیر کی وراثت کو مسترد کرنے کے قابل نہ ہو سکے اور ہرات کے مسئلے

پرافغانستان کے ساتھ تنازعات 1273/1857 تک جاری رہے۔  
 عظیم طاقتوں کے باہمی حسد اور ناصر الدین شاہ کی سخت گیری کی وجہ سے فارس اپنا علاقائی  
 اتحاد برقرار رکھنے کے معاملہ میں عثمانی سلطنت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ کامیاب رہا۔ پھر بھی  
 جنگ وجدل اور شاہی فضول خرچی قوم کو بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے پس رہی تھی اور یورپی قرض  
 خواہ اقوام کا معاشی جال مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ نسبتاً کمزور مظفر الدین شاہ کے عہد میں ایک تحریک  
 ابھری جس نے کچھ حد تک سیاسی آزادی اور آئین بنانے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبات 1906ء  
 میں پورے ہوئے۔ قاجاروں کی شان و شوکت اور اختیارات اب مندل ہونے لگے تھے۔ پہلی  
 عالمی جنگ کے دوران فارس سرکاری سطح پر غیر جانبدار رہا، لیکن اس کے باوجود ترک، روسی اور  
 برطانوی فوجوں نے سرزمین فارس پر جنگ کی اور صوبوں میں تحریکیں ابھرنے لگیں۔ چنانچہ فوج  
 کے کمانڈر انچیف رضا خان کے لیے قومی اسمبلی کے ذریعہ قاجاروں کو معزول کروانا مشکل نہ تھا  
 (1924ء)۔ اس کے بعد وہ خود ہی رضا شاہ پہلوی کے تخت فارس پر جلوہ افروز ہو گیا اور شاہ محمد  
 رضا کا باپ بنا۔

## افغانستان اور ہندوستان 71- غزنوی (1186-977/582-366)

خراسان، افغانستان اور شمالی ہندوستان

ناصر الدولہ سبکتگین (سامانیوں کی جانب سے گورنر)	366/977
اسماعیل	387/997
یحییٰ الدولہ محمود	388/998
جلال الدولہ محمود، پہلا دور حکومت	421/1030
شہاب الدولہ مسعود اول	421/1031
محمد، دوسرا دور حکومت	432/1041
شہاب الدولہ مسعود	432/1041
مسعود دوم	441/1050
بہاء الدولہ علی	441/1050
عز الدولہ عبدالرشید	441/1050
قوام الدولہ طغرل (توغریل) کی شورش	444/1053
جمال الدولہ فرخ زاد	444/1053
ظاہر الدولہ ابراہیم	451/1059
علاء الدولہ مسعود سوم	492/1099
کمال الدولہ ہیر زاد	508/1115
سلطان الدولہ ارسلان شاہ	509/1115
یحییٰ الدولہ بہرام شاہ	512/1118

معز الدولہ خسرو شاہ

547/1152

تاج الدولہ خسرو ملک

555-82/1160-86

غوری فتوحات

350/961 میں سامانی امیر عبدالملک کی وفات پر خراسان میں سامانی فوجوں کے ترک غلام سپہ سالار لیکنین نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ساز باز کی۔ یہ کوشش ناکام رہی اور اسے اپنی کچھ فوجوں کے ساتھ مشرقی افغانستان میں غزنہ کی طرف جانا پڑا۔ یہاں سامانی سلطنت کے کناروں پر اور ہندوستان کی بت پرست سرزمین کے سامنے ترک غلام سپہ سالاروں کا ایک سلسلہ قائم ہوا جو 366/977 میں سبکتگین کی وفات تک سامانیوں کے نام پر حکومت کرتے رہے۔ اس کے دور میں غزنویوں نے مال و دولت اور غلام حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے میدانوں پر حملے کرنے کی روایت اپنائی، لیکن اس کا بیٹا محمود کھل خود مختار ہو گیا اور اس نے ساری مسلم دنیا میں بت شکن کے طور پر شہرت پائی۔ وہ گنجا، متھرا اور کنوج سے آگے جزیرہ نما کاٹھیا واڑ تک گیا اور سومناٹھ کے مشہور مندر پر حملہ کیا۔ شمال میں اس نے دریائے راجھون کو قراخانیوں کی مخالف طاقت کے ساتھ اپنی سرحد مقرر کیا اور خوارزم کو ساتھ ملا لیا۔ مغرب میں خراسان کا سابق سامانی صوبہ قراخانی حملوں کے سامنے ڈنار ہا اور محمود اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی مغربی فارس میں ہی رہے اور ہمدان کی جانب گیا اور انہیں بیویوں سے چھین لیا (420/1029)۔

محمود کی وفات پر اس کی سلطنت بہت وسیع اور پر جلال تھی اور اسے ممکن بنانے والی عسکری مشین اس دور میں سب سے زیادہ موثر تھی۔ فارسی انتظامی طریقوں اور ثقافتی اطوار اپنانے کی وجہ سے بھی غزنوی اپنے بت پرست ترک پس منظر سے کٹ گئے۔ لیکن محمود کی سلطنت اس کے بیٹے مسعود کے دور میں..... بنیادی طور پر ایک ذاتی تخلیق..... مغربی طرف سے شکستہ ہونے لگی: خراسان اور خوارزم واپس سلجوقوں کو مل گئے اور گیارہویں صدی کے وسطی سال ان کے ساتھ سیستان اور مغربی افغانستان کی خاطر لڑائیوں میں گذرے۔ 451/1059 میں ابراہیم کی تخت نشینی پر سلجوقوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا اور تقریباً نصف صدی امن سے گذری۔ اب مشرقی افغانستان اور شمالی ہندوستان تک ہی محدود رہ جانے پر غزنوی سلطنت کا ہندوستان کی

جانب جھکاؤ مزید بڑھ گیا۔ بارہویں صدی میں سلجوق سلطان سخر نے ایک سے زائد مواقع پر غزنوی معاملات میں ٹانگ اڑائی اور غوری علاؤ الدین جہاں سوز کے ہاتھوں غزنہ کی خوفناک تباہی کی صورت میں بہرام شاہ کی حکومت نقطہ عروج کو پہنچی (1-1150/545)۔ وسطی افغانستان میں غوریوں کی سرفرازی نے آخری غزنویوں کی طاقت کم کر دی اور خسرو شاہ اور خسرو ملک نے بنیادی طور پر پنجاب تک ہی حکومت کی۔ آخر کار غوری غیاث الدین محمد نے اس سلسلے کا خاتمہ کر دیا (582/1186)۔

## 72- غوری (1215-1000/612-390 اندازاً)

خراسان، افغانستان، شمالی ہندوستان

### 1- مرکزی سلسلہ غور اور اس کے بعد غزنہ میں

محمد بن سوری	?
ابوعلی	401/1011
شیث	?
عباس	?
محمد	?
قطب الدین حسن	?
عزالدین حسین	493/1100
سیف الدین سوری	540/1146
بہا الدین سام اول	544/1149
علا الدین حسین	544/1149
سیف الدین محمد	556/1161
غیاث الدین محمد	558/1163

شہاب الدین یا معز الدین محمد (569/1173)	599/1203
کے بعد سے غزنہ میں حکمران)	
غیاث الدین محمود	602/1206
بہا الدین سام دوم	609/1212
علا الدین اتسیر	610/1213
علا الدین یا ضیا الدین محمد	611-12/1214-15

## خوارزمی فتوحات

## 2- بامیان اور تخارستان میں سلسلہ

فخر الدین مسعود	540/1145
شمس الدین محمد	558/1163
بہا الدین سام	588/1192
جلال الدین علی	602-12/1206-15

## خوارزمی فتوحات

افغانستان کا ناقابل رسائی وسطی خطہ غور تقریباً سارا کا سارا ابتدائی اسلامی جغرافیہ دانوں کی *terra incognita* (نا قابل شناخت دھرتی) تھی۔ یہ خطہ صرف غلاموں کے منبعے اور ایرانی پہاڑیوں کی سخت جان نسل (جو گیارہویں صدی تک بھی بدستور بت پرست رہے) کے طور پر مشہور تھا۔ اس صدی کے دوران غزنویوں نے غور پر چڑھائیاں کیں اور ہنسہانی خاندان کے مقامی سرداروں کو اپنے ہاجگوار بنا لیا۔ لیکن ابتدائی بیسویں صدی میں غزنویوں کے مقدر کا ستارہ غروب ہونے لگا اور سارے غور میں سلجوق اثر پھیلنے لگا۔ سلجوق سلطنت کی پہلی مکمل تاریخی شخصیت عزالدین حسین نے سنجر کو جزیہ ادا کیا۔ غزنوی سلطان بہرام شاہ کی جانب سے اپنے گھٹتے ہوئے اثر و رسوخ کو دوبارہ منوانے کی کوشش کے نتیجہ میں غوریوں نے 1-545/1150 میں غزنہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور مشرقی افغانستان میں غزنوی مقبوضات کے مالک بن گئے۔ مغرب میں علاؤ الدین حسین کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی راہ میں سنجر حائل ہوا، لیکن خراسان میں کچھ ہی



عرصہ بعد سلجوق سلطنت کے انہدام نے غوریوں کو کاسپین سمندر سے لے کر شمالی ہندوستان تک ایک سلطنت قائم کرنے کے قابل بنایا جہاں جہاد کی غزنوی روایت کو جاری رکھا گیا۔

اس کامیابی کے شریک موجد دو بھائی غیاث الدین محمد اور معز الدین محمد تھے: اول الذکر مغرب میں مہم جوئی کر رہا تھا اور موخر الذکر ہندوستان میں۔ بامیان اور بالائی دریائے جیحون کے ساتھ ساتھ کی زمینوں پر غوری خاندان کی ایک اور شاخ کی حکومت تھی۔ غیاث الدین نے غوریوں اور ترک غلام فوجیوں کی مدد سے خوارزم شاہان کا مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر اس نے خوارزم پر بھی ہلہ بولا اور اپنی موت تک سارے خراسان پر قابض رہا۔

تاہم معلوم ہوتا ہے کہ غوریوں کے انسانی وسائل اتنے کافی نہیں تھے کہ سلطنت کو اکٹھا رکھ سکتے جبکہ ان کے خوارزمی دشمن آزادی کے ساتھ وسط ایشیائی میدانوں سے فوجی حاصل کر سکتے تھے۔ 602/1206 میں معز الدین کی وفات کے بعد سلطنت اندرونی نفاق کا شکار ہو گئی، غوریوں کے ترک سپاہیوں کے ایک گروپ نے غزنہ میں خود مختاری حاصل کر لی اور خوارزم شاہ آگے بڑھ کر غوری علاقوں کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کرنے کے قابل تھا۔ تاہم یہ خوارزمی غلبہ قلیل المدت ثابت ہوا کیونکہ جلد ہی چنگیز خان کے منگولوں نے ساری مشرقی مسلم دنیا پر فتح پالی۔ نیز، معز الدین کے ترک جرنیل شمالی ہند میں (جہاں قطب الدین ایبک تخت لاہور پر براجمان تھا) غوریوں کی پالیسیوں اور روایات پر ہی عمل پیرا ہے۔

73- سلاطین دہلی (602-962/1206-1555)

شمالی ہندوستان

1- معزی یا غلام بادشاہ

قطب الدین ایبک

602/1206

آرام شاہ

607/1210

شمس الدین التمش

607/1211

رکن الدین فیروز شاہ اول

633/1236

جلالت الدین رضیہ بیگم	634/1236
معز الدین بہرام شاہ	637/1240
علاء الدین مسعود شاہ	639/1242
ناصر الدین محمود شاہ اول	644/1246
غیاث الدین بلبن	664/1266
معز الدین کیقباد	686/1287
شمس الدین کیومرثہ ۱ کیومرث	689/1290

### 2- خلجی

جلال الدین فیروز شاہ دوم	689/1290
رکن الدین ابراہیم ابراہیم شاہ اول	695/1296
علاء الدین محمد شاہ اول	695/1296
شہاب الدین عمر شاہ	715/1316
قطب الدین مبارک شاہ	716/1316
ناصر الدین خسرو شاہ کی شورش	720/1320

### 3- تغلق

غیاث الدین تغلق شاہ اول	720/1320
غیاث الدین محمد شاہ دوم	725/1325
محمود	752/1351
فیروز شاہ سوم	752/1351
غیاث الدین تغلق شاہ دوم	790/1388
ابوبکر شاہ	791/1389
ناصر الدین محمد شاہ سوم	792/1390
علاء الدین سکندر شاہ اول	795/1393

ناصرالدین محمود شاہ دوم، پہلا دور حکومت	795/1393
نصرت شاہ (محمود شاہ دوم کے ساتھ اقتدار کے لیے لڑائی)	797/1395
محمود شاہ دوم، دوسرا دور حکومت	801/1399
دولت خان لودی (لودھی)	826-17/1413-14

#### 4-سادات

خضر خان	917/1414
معزالدین مبارک شاہ دوم	824/1421
محمد شاہ چہارم	838/1435
علاء الدین عالم شاہ	849-55/1446-51

#### 5-لودی

بہلول لودی	855/1451
نظام خان سکندر دوم	894/1489
ابراہیم دوم	923-32/1517-26
بابر کی قیادت میں مغل فتوحات	

#### 6-سوری یا افغانی

شیر شاہ سوری	947/1540
اسلام شاہ	952/1545
محمد نجم عادل شاہ	961/1554
ابراہیم سوم	961/1554
احمد خان سکندر شاہ سوم	962/1555

ہمایوں کے ہاتھوں مغلوں کی حتمی فتح

اموی خلفاء کے عرب گورنروں نے سب سے پہلے زیریں سندھ کی وادی میں اسلام کا بیج بویا،

92/711 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو قطعی طور پر فتح کیا۔ بعد کی تین صدیوں کے دوران یہ قبضہ بدستور قائم رہا۔ اگرچہ کچھ مسلم آبادیاں اسماعیلی شیعئی مبلغوں سے متاثر ہوئیں جو اس وقت مسلم دنیا کے بہت سے حصوں (شمالی افریقہ سے لے کر یمن اور ہند کی سرحدوں تک) میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ معروف تھے۔ مسلمان مشرق قریب اور گجرات، بمبئی و دکن کے ساحلی علاقوں کے مابین تجارتی روابط بھی موجود تھے، جیسا کہ کلاسیکی ادوار میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان تعلقات نے برصغیر کی وسیع آبادی کو بمشکل ہی متاثر کیا۔

یہ ترک غزنوی ہی تھے جو پہلی مرتبہ مسلم عسکری طاقت کو شمالی ہندوستان میں بھرپور طریقے سے لائے، 417/1026 تک ہندو شاہیوں جیسی طاقتور مقامی بادشاہتوں کا تختہ الٹا، بہت سے راجپوت حکمرانوں کو باجگزار بنایا اور گجرات میں سومناٹھ، کالنجر اور بنارس تک پہنچ گئے۔ اگرچہ محمود غزنی نے مسلمان دنیا میں بطور بت شکن بڑی تابناک شہرت حاصل کی لیکن یہ بات واضح ہے کہ سلطان کوئی متعصب یا کٹر شخص نہ تھا کہ جس نے ہندوستان کو تبدیلیی مذہب پر مجبور کیا ہو۔ غزنوی فوج میں ہندوستانی فوجیوں کا حصہ کافی بڑا تھا اور یہ نہیں لگتا کہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تبدیلیی مذہب لازمی تھی۔ شمالی ہندوستان میں غزنیوں کی دلچسپی بنیادی طور پر معاشی نوعیت کی حامل تھی، کیونکہ برصغیر کو دولت اور غلاموں کا ایک وسیع ذخیرہ خیال کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے پنجاب پر قبضہ کر کے اسے ہندوستان میں اپنا مستقل اڈہ بنایا اور ان کے عہد کے اختتام پر لاہور دارالحکومت بن گیا۔

چنانچہ معز الدین غوری اور اس کے جرنیلوں کی بارہویں صدی کے آخری اور تیرہویں صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران تیسری ہندوستان کے لیے راہ ہموار ہو چکی تھی۔ وہ آخری غزنوی سے پنجاب لے لینے کے بعد وادی گنگا کی جانب بڑھا اور مقامی راجپوت بادشاہوں سے اس کا سامنا ہوا: پہلے اجمیر اور دہلی کے چوہان بادشاہ پرتھوی راج سوم کو شکست دی گئی (588/1192)۔ معز الدین کے ترک کمانڈروں میں سے قطب الدین ایبک کو تمام ہندوستانی فتوحات کا نگران مقرر کیا گیا، جبکہ سلطان خراسان میں معروف تھا۔ اس نے پنجاب میں غوری مقبوضات اور گنگا جمنا دو آب پر قبضہ قائم رکھا اور گجرات تک حملے کیے۔ ایک اور جرنیل اختیار الدین محمد خلجی بہار اور بنگال تک جا

پہنچا اور وہاں غوری یا لکنوتی کو بیس بنا کر آسام پر بھی حملہ کیا۔ غوریوں اور ان کے جرنیلوں کے اس دور میں ہی شمالی ہند میں اسلام کو پائیداری ملنا شروع ہوئی۔ وہاں طویل عرصہ سے قائم ہندو بادشاہتوں کو مطیع کیا گیا اور متعدد مسلم سلطنتوں کی بنیادیں رکھی گئیں۔ دوسری طرف یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ سلطنتِ دہلی کے سارے دور میں ترک-افغان عسکری قبضے کے مراکز سے دور واقع خطوں میں مقامی ہندو اور بالخصوص راجپوت سرداروں کی طاقت بدستور قائم رہی۔

602/1206 میں معز الدین کی وفات پر ایک نے فیروز کوہ کے غوری سلطان کے ایماء پر لاہور میں "ملک" کے طور پر اقتدار سنبھال لیا۔ اس کے بعد غزنہ اور غوری سلطنت کے افغان حصے ہندوستان سے کٹ کر خوارزم شاہان اور پھر منگولوں کے پاس چلے گئے۔ ایک اور 689/1290 تک اس کے جانشین حکمرانوں کے سلسلے کو عموماً "غلام سلاطین" کہا جاتا ہے، تاہم ان میں سے صرف تین..... ایک، ایش اور بلبن..... ہی غلام تھے۔ ان سلاطین کا تعلق کسی ایک نہیں بلکہ تین نسلوں سے تھا۔ دہلی میں خود مختار سلطنت کے حقیقی موجد ایش کے دور میں سندھ (جو پہلے معزی جرنیل ناصر الدین قباچہ کے ہاتھوں میں تھا) کو بھی سلطنتِ دہلی میں شامل کر لیا گیا۔ وہ خوارزمیوں کو بھی اپنی مقبوضات سے باہر رکھنے میں کامیاب رہا، لیکن منگولوں نے 639/1241 میں پنجاب پر حملہ کیا، لاہور کو تاراج کیا اور پھر آگے اُچ تک گیا۔ بعد کے کمزور سلاطین نے داخلی تنازعات پیدا کئے اور سلطنت کا اتحاد صرف بلبن کی خود مختار حکمرانی سے ہی یقینی بنا جو اصل میں ایش کے 40 ترک غلاموں کے مشہور ٹولے (چہلگان) میں سے ایک تھا۔ بلبن نے اپنے آقا کی پالیسی پر ہی عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاحات کے ذریعہ سلطنت کے لیے ایک مضبوط عسکری و حکومتی بنیاد فراہم کی اور حاکم کے اقتدار کو روایتی فارسی خطوط پر چلایا۔ باقی ماندہ مسلمان دنیا کے ساتھ روحانی و اخلاقی روابط مستحکم بنائے گئے۔ ایش عباسی خلیفہ المستعصر سے سند حاصل کر چکا تھا، حتیٰ کہ بغداد میں آخری خلیفہ المستعصر کے قتل کے کافی عرصہ بعد بھی معزی سلاطین نے سکوں پر اس کا نام دینا جاری رکھا۔ اس طرح آپ سنی اسلام اور خلافت کی روحانی قیادت کی قبولیت کے جذبہ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ جذبات ہندوستانی اسلام کی زیادہ تر تاریخ میں موجود رہے جو اردگرد کے ہندو ماحول کے دباؤ کے خلاف اپنی شناخت برقرار رکھنے کی جدوجہد کا پتہ دیتے ہیں۔ اس عہد

کی ثقافت میں فارس اور اورائے چینوں میں منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر آنے والے پناہ گزینوں کی لہر کا زرخیز کاراثر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پناہ گزین ایشیا اور بلین کے ادوار حکومت میں ہندوستان آئے۔ بعد کے وقتوں میں، مثلاً محمد بن تغلق کا عہد، تازہ خون کی آمیزش ہندو مسلم ثقافت کو تقویت بخشتی رہی۔

689/1290 میں معزی سلاطین کی جگہ خلجی جلال الدین فیروز شاہ دوم نے لے لی۔ خلجی بالاصل ترک لوگ تھے (یا کسی مختلف نسل کے لوگ جنہوں نے خود کو ترک کی رنگ میں رنگ لیا)۔ وہ مشرقی افغانستان میں آباد تھے۔ یہ قرین قیاس لگتا ہے کہ جدید دور کے غلوی افغان انہی کی اولاد ہیں۔ معز الدین کے عہد میں خلجیوں نے ہندوستان پر غوری حملوں میں نمایاں کردار ادا کیا اور اختیار الدین محمد خلجی ہی وہ شخص تھا جو بنگال اور مشرقی ہندوستان میں اسلام کو پہلی بار لایا۔ فیروز شاہ کے سامنے سب سے ضروری کام منگولوں کو دور رکھنا تھا، تاہم اسی کے دور حکومت میں بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے والے منگولوں کو دہلی کے علاقہ میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی۔ خلجی سلطنت کی باکمال شخصیت بلاشبہ علاء الدین محمد ہے جس نے خود کو سکندر ثانی تصور کیا اور جو ایک وسیع و عریض سلطنت کو اکٹھا کرنے کا عظیم خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھا۔ اصل میں اسے سب سے پہلے شمال مغربی سرحد پر چھائی منگولوں کے خطرے سے نمٹنا پڑا جو سن 706/1306 تک کئی بار حملہ کر کے دہلی تک پہنچے تھے۔ تاہم علاء الدین کے عزائم کو اصل راہ جنوبی ہندوستان میں ملی..... وندھیا پہاڑوں کے جنوب کا زرخیز علاقہ جہاں ابھی تک مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا۔

695/1296 میں یادوؤں کے دارالحکومت مغربی دکن میں دیوگری یادو یوگیر پر ایک حملے نے اتنی دولت فراہم کی کہ جسے اس نے بعد ازاں سلطنت حاصل کرنے میں استعمال کیا، اور جب وہ تخت پر براجمان ہو گیا تو دکن کے انتہائی جنوبی کونے میں مزید فوجیں بھیجیں۔ علاء الدین بدستور "ناصر امیر المؤمنین" کا روایتی عہدہ استعمال کرتا رہا، "امیر المؤمنین" کا خلافتی لقب اپنے لیے استعمال کرنے والا پہلا اور آخری ہندوستانی مسلم حکمران اس کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ اول تھا۔

آخری خلجی سلطان مبارک شاہ اول کے منظور نظر (اور گجرات کی ایک پست ذات کے نو مسلم) خسرو خان نے جب دین سے انحراف کیا اور دہلی میں تخت پر قبضہ کر لیا تو خلجی سلسلہ اختتام پذیر ہو

گیا۔ ترکی ہندوستانی کمانڈر غازی ملک تغلق اور اس کے بیٹے محمد نے مسلم کنٹرول دوبارہ قائم کیا۔ محمد بن غازی ملک تغلق نے 720/1320 میں تغلقوں کے دور حکومت کی طرح ڈالی۔ تغلق نے سلطنت کو بحال کرنے اور دکن کو دوبارہ مسلم کنٹرول میں لانے کے لیے کافی کچھ کیا۔ وہ ایک کرشماتی شخصیت ہے..... فارسی کا عظیم عالم اور مختلف علوم کا ماہر اور ایک باصلاحیت سپہ سالار، تاہم اس کا طرز عمل عموماً غلط اور قوت فیصلہ کوتاہ نظر آتی ہے۔ سلطنت کو مستحکم مالیاتی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ٹیکس میں اضافوں نے اسے غیر مقبول بنا دیا اور 727/1327 میں دارالحکومت کو دہلی سے دیوگیر (دولت آباد) منتقل کرنے کا فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ دوسری طرف اس نے چغتائی منگول ترم شیریں کے ورائے جیچون سے حملے کو کامیابی سے روکا (729/1329) لیکن اس کا اہل خانیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر براستہ پامیر وسط ایشیا پر حملہ کرنے کا منصوبہ محض ایک خام خیالی تھا۔ محمد بن تغلق ہندوستان سے باہر کی مسلم دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتا تھا۔ اس کا مصری مملوکوں کے ساتھ رابطہ تھا اور اس نے قاہرہ میں کٹھ پتلی عباسی خلیفہ سے سند اختیار حاصل کرنی چاہی۔ پھر بھی ہندوستان کی شمالی سرحدوں پر غیر حقیقت پسندانہ عسکری منصوبوں میں توانائیاں صرف کرنے کے نتیجے میں دکن پر تغلقوں کا اختیار کمزور پڑ گیا: انتہائی جنوب میں مدرا کے مقام پر ایک خود مختار مسلم بادشاہت قائم ہوئی جسے آخر کار ابھرتی ہوئی دجے نگر کی ہندو بادشاہت نے شکست دی اور 748/1347 میں علاء الدین باہمن شاہ نے وسطی دکن کی بہمنی سلطنت کی طرح ڈالی۔ بعد میں فیروز شاہ سوم نے سندھ اور بنگال میں سلطانی حاکمیت بحال کی لیکن دکن سے الجھنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ آخری تغلق بہت کمزور تھے اور سلطنت کی ناتوانی کے باعث تیمور لنگ 801/1398-9 میں ہندوستان پر حملہ کرنے اور زبردست تباہی پھیلانے کے قابل ہوا۔ نتیجتاً سلطنت کا سیاسی اتحاد پارہ پارہ ہو گیا۔ مختلف مسلم رہنماؤں نے صوبوں میں خود مختاری حاصل کر لی۔ 40 برس سے کم عرصہ تک اقتدار خضر خان کے ہاتھ میں رہا۔ وہ تیمور کی جانب سے مقرر کردہ سابق گورنر ملتان تھا۔ اس نے تیمور اور شاہ رخ کے نام پر حکومت کی اور خود کو ”راہت علی“ کے لقب پر ہی قانع رکھا۔ رسول اللہ ﷺ کی نسل سے ہونے کے جعلی دعوے کے باعث اس کی سلطنت کو ”سلطنت سادات“ کہا جانے لگا۔ سیدوں کی موثر حاکمیت دہلی کے گرد ایک چھوٹے سے علاقہ

تک ہی محدود تھی اور تیموریوں پر ابتدائی انحصار کرنے سے وہ دہلی کے ترک اور افغان فوجی طبقات میں غیر مقبول ہو گئے۔ 855/1451 میں سادات کی جگہ بہلول خان نے لے لی جو افغان لودھی قبیلے کا سردار تھا اور سر ہند اور لاہور کا گورنر رہ چکا تھا۔ بہلول کی طاقت تعلقوں کی ہم پلہ تھی۔ اس نے ہندوستان میں مسلم شان و شوکت کی بحالی کے لیے کافی کچھ کیا۔ وسطی ہند کو دوبارہ دہلی کے اختیار میں لایا اور جونپور کے مشرقی حکمرانوں کو معزول کیا گیا (881/1477)۔ اس کے بیٹے سکندر دوم نے راجپوت ریاستوں کے خلاف کارروائیوں میں کچھ کامیابی حاصل کی اور اپنا دارالحکومت آگرہ لے گیا جو ان حملوں کے لیے ہمیں کے طور پر کام آیا۔ آخری لودھی ابراہیم دوم نے اپنے متعدد شرفاء اور کمانڈروں کو خود سے دور کر دیا اور انہی میں سے کچھ نے کابل میں موجود چغتائی مغل بابر کو مدد اخلت کی دعوت دی۔

932/1526 میں پانی پت کے مقام پر بابر کی فتح ابراہیم کی موت پر منبج ہوئی اور ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا آغاز ہوا۔ تاہم ابھی اس کا مطلب ہندوستان میں بابر کی سلطنت کا مستقل قیام ہرگز نہیں تھا کیونکہ اس کے بیٹے ہمایوں کی حکومت میں شیر شاہ سوری کے ذریعہ افغان حکومت کی بحالی کا پندرہ سالہ وقفہ آیا۔ شیر شاہ نے بہار سے روانہ ہو کر ہمایوں کو کنوج میں شکست دی اور یوں بابر کے کئے ہوئے کام کو بے اثر کر دیا (947/1540)۔ شیر شاہ نے ایک عمدہ جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ اہم مالیاتی اور زمینی اصلاحات متعارف کروائیں۔ اگر وہ وقت سے پہلے مرنے جاتا تو شاید ہندوستان میں ایک طاقتور افغان سلطنت قائم ہو جاتی اور ہمایوں ایک مرتبہ پھر اپنی قسمت آزمانے کی کوشش نہ کر سکتا۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ شیر شاہ کے ہوس پرست جانشینوں کی کمزوری نے مغل غلبے کی راہ ہموار کی۔

## 74- سلاطین بنگال (737-984/1336-1576)

### 1- مشرقی بنگال میں

نحر الدین مبارک شاہ

737/1336

اختیار الدین غازی شاہ

750-3/1349-52



شمس الدین الیاس شاہ کی فتح

## 2- مغربی بنگال اور اس کے بعد سارے بنگال میں

علاء الدین علی شاہ

740/1339

الیاس شاہ کا سلسلہ:

شمس الدین الیاس شاہ

746/1345

سکندر شاہ اول

759/1358

غیاث الدین اعظم شاہ

792/1390

سیف الدین حمزہ شاہ

813/1410

شہاب الدین بایزید شاہ

815/1412

علاء الدین فیروز شاہ

817/1414

راجہ کنیش کا سلسلہ:

جلال الدین محمد شاہ

817/1414

شمس الدین احمد شاہ

835-40/1432-6

الیاس شاہ کے سلسلہ کی بحالی:

ناصر الدین محمود شاہ

841/1437

رکن الدین باربک شاہ

864/1460

شمس الدین یوسف شاہ

879/1474

سکندر شاہ دوم

886/1481

جلال الدین فتح شاہ

886-92/1481-87

صہیوں کا سلسلہ

سلطان شاہزادہ باربک شاہ

892/1487

سیف الدین فیروز شاہ

892/1487

ناصر الدین محمد شاہ

895/1490

شمس الدین مظفر شاہ	896-99/1491-4
	سید حسین شاہ کا سلسلہ
سید علاء الدین حسین شاہ	899/1494
ناصر الدین نصرت شاہ	925/1519
علاء الدین فیروز شاہ	939/1532
غیاث الدین محمود شاہ	940-6/1533-9
	سوری افغانوں کا سلسلہ
شیر شاہ سُر	946/1539
خضر خان	947/1540
محمد خان سُر	952/1545
خضر خان بہادر شاہ	962/1555
غیاث الدین جلال شاہ	968-71/1561-4
	سلیمان کرارانی کا سلسلہ
سلیمان کرارانی	971/1564
بایزید شاہ کرارانی	980/1572
داؤد شاہ کرارانی	980-4/1572-6

### مغلوں کی فتح

سلاطین دہلی کے لیے بنگال کا انتظام و انصرام ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہا۔ صوبے کے وسیع وسائل اور دارالحکومت سے اس کی دوری کے باعث یہاں کے حاکم وقتاً فوقتاً بغاوتیں کرتے رہے۔ 686/1287 میں بلبن کی وفات کے بعد بنگال گورنروں کے تحت حقیقی معنوں میں خود مختار ہو گیا۔ جن کا صدر مقام لکھنوتی تھا اور چودھویں صدی کے ابتدائی برسوں میں بنگال فتح ہوا اور مسلم افواج نے دریائے برہم پترا عبور کر کے آسام کے ضلع سلہٹ میں قدم رکھا۔ غیاث الدین تغلق نے کچھ عرصہ تک دہلی کا اختیار دوبارہ منوایا اور بنگال کو دو گورنریوں میں تقسیم کر دیا: مغربی، جس کا

مرکز لکھنوتی تھا اور دوسری مشرقی جس کا مرکز سونار گاؤں بنایا گیا۔ لیکن اس کی وفات کے بعد بنگال مشرق میں فخر الدین مبارک اور مغرب میں علاء الدین علی کے ہاتھ آ گیا اور آئندہ اڑھائی سو سال تک بنگال پر خود مختار سلاطین کی حکومت رہی۔ اس عرصہ کے دوران ہندوستان کی پست ذاتوں میں قبول اسلام کا عمل تیزی سے جاری رہا، اسی لیے آج اس خطے میں مسلمانوں کا غلبہ ہے۔

غیاث الدین الیاس کے خاندان نے سارے بنگال کو اپنے زیر نگیں کیا۔ الیاسیوں کے دور میں مسلم فنون اور علوم نے ترقی پائی اور بنگال کی کپڑے اور خوردنی اشیاء کی صنعتوں کو فروغ حاصل ہوا۔ پندرہویں صدی کے پہلے عشرے میں غیاث الدین اعظم نے چین کے ساتھ پرانے سفارتی اور ثقافتی تعلقات بحال کئے اور چٹاگانگ بندرگاہ کی ترقی غالباً مشرق بعید کے ساتھ تجارت میں اضافہ کی غماز ہے۔ الیاسیوں کی حکومت میں اس وقت 25 سال کے لیے رخنہ پیدا ہوا جب بھاتوریہ کے ایک مقامی ہندو جاگیردار راجہ گنیش نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ برس تک پس پردہ رہ کر امور سلطنت چلاتا رہا اور آخر کار اس نے اپنے بیٹے جادو کو حکمران بنا دیا۔ جادو مسلمان ہو گیا اور اس نے جلال الدین محمد کے نام سے حکومت کی۔ ہندو الاصل ہونے کے باوجود راجہ گنیش کی اولاد کو حکومت کرنے میں کچھ مسلم حمایت حاصل ہو گئی۔ الیاسیوں کی بحالی پر دربار کے حبشی محافظوں کا اثر و رسوخ بڑھا، حتیٰ کہ 892/1487 میں ان کے سالار خواجہ سراسلطان شاہزادہ نے آخری الیاس کو قتل کر کے اقتدار سنبھال لیا۔

انجام کار سید علاء الدین حسین نے نظم و نسق قائم کیا جس کا روشن خیال دور حبشی دور کی ابتری کے بعد آیا۔ بہار کو ساتھ ملا لیا گیا: جو پور کے مشرقی حکمران کو پناہ دی گئی (جسے دہلی کے لودھیوں نے معزول کر دیا تھا) اور جو پور کے فوجیوں کو بنگالی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ مقامی بنگالی ادب کے فروغ کا عمل ان صدیوں کے دوران جاری رہا، اور معلوم ہوتا ہے کہ نصرت شاہ بن سید حسین کی سرپرستی میں مہا بھارت کے بنگالی ترجمہ نے اس کی مزید حوصلہ افزائی کی۔ سید حسین کے سلسلے کا خاتمہ افغان شیر شاہ سور کی یکا یک سرفرازی کے باعث ہوا جس نے بنگال پر قبضہ کر کے اسے مغل ہمایوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن دہلی و لاہور میں مغلوں کے پیر جمنے اور افغانوں کو شکست ہونے پر مغل اثر و رسوخ بنگال میں بھی محسوس کیا جائے گا۔ جنوبی بہار کے سابق

حاکم سلیمان کرارانی نے اکبر کی نیابت قبول کر لی اور 984/1576 میں بنگال پر حملہ کر کے اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔

### 75- سلاطین کشمیر (1589-1346/997-747)

#### 1- شاہ میرزا سواتی کا خاندان

شمس الدین شاہ میرزا سواتی	747/1346
حمید	750/1349
علاء الدین علی شہر	751/1350
شہاب الدین شہر اشاک	760/1359
قطب الدین ہندال	780/1378
سکندر بت شکن	796/1394
علی میرزا خان	819/1416
زین العابدین شامی خان	823/1420
حیدر شاہ حاجی خان	875/1470
حسن	876/1471
محمد، پہلا دور حکومت	894/1489
فتح شاہ، پہلا دور حکومت	895/1490
محمد، دوسرا دور حکومت	903/1498
فتح شاہ، دوسرا دور حکومت	904/1499
محمد، تیسرا دور حکومت	905/1500
ابراہیم اول	932/1526
نازک، پہلا دور حکومت	933/1527
محمد، چوتھا دور حکومت	935/1529

شمس الدین	939/1533
نازک، دوسرا دور حکومت	947/1540
حیدر و غلت، ہمالیوں کا گورنر	947/1540
نازک، تیسرا دور حکومت	958/1551
ابراہیم دوم	959/1552
اسماعیل	962/1555
حبیب	964-8/1557-61

غازی خان چک نے اسے معزول کیا  
2-غازی خان چک کا خاندان

غازی خان بن چک	968/1561
نصر الدین حسین	971/1563
ظاہر الدین علی	977/1569
نصر الدین یوسف	986/1579
یعقوب	994/1586
مغل شہنشاہ اکبر کے سامنے اظہارِ اطاعت	997/1589

پہاڑوں کے درمیان گہرے ہونے کی جغرافیائی حالت کے باعث کشمیر کافی عرصہ تک مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رہا۔ شمالی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے کافی عرصہ بعد تک کشمیر پر ہندو حکمرانوں کا سلسلہ ہی مقتدر رہا۔ محمود غزنوی نے جنوب کی طرف سے کشمیر پر حملہ کرنے کی دو مرتبہ کوشش کی: 406/1015 اور 412/1021 میں۔ مگر دونوں مرتبہ لوہ کوٹ کے قلعہ تسخیر نہ ہو سکا۔ تاہم ہندو کرائے کے ترک مسلم سپاہیوں (تروشک) کو بھرتی کرنے لگے اور تبھی اسلامائزیشن کا عمل شروع ہوا ہوگا۔

735/1335 میں وہاں کا تخت شاہ میرزا سواتی نے حاصل کر لیا جو پٹھان نسل کا مسلمان مہم پسند تھا اور جو راجا سنہد دیو کا وزیر رہ چکا تھا۔ اس نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ وہ ہندوؤں کی

جانب نرم رویہ رکھتا تھا۔ لیکن اس کا پوتا سکندر ایک پرہیزگار مسلمان تھا جس کی سرپرستی میں جمع ہونے والے علماء نے ہندوؤں کو سزائیں دیں، ان کے مندر تباہ کر دیئے اور اسے ”بت شکن“ کا خطاب دیا۔ تاہم اس کے بیٹے زین العابدین نے اس کثرت پر جینی پالیسی کو واپس لیا اور اس کی طویل و روشن خیال حکومت ایک لحاظ سے کشمیر کا عہد زریں تھی۔ اس کی زیر سرپرستی مہا بھارت اور کلہن کی راج ترنجینی کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ بد قسمتی سے اس کے جانشین کمتر آدمی تھے جنہوں نے امتیازی سلوک روار کھے۔ مختلف علاقائی سرداروں نے پہاڑی اور دشوار گزار خطے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مختاری حاصل کر لی۔ بالخصوص طاقتور چک قبیلے کا اثر و روخ بڑھا جس کے سرکردہ افراد شاہ میرزا سلسلے کے آخری کمزور حکمرانوں کے لیے وزراء اور سالاروں کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ مغل بادشاہ حیدر دغلت نے 947/1540 میں کشمیر پر حملہ کیا اور اپنے عزیز ہمایوں کے ایماء پر دس برس تک حکومت کرنے کے بعد ایک شورش میں مارا گیا۔ چک خاندان دوبارہ ابھرا اور 968/1561 کے بعد انہوں نے بذات خود حکمرانی کی اور مغلوں کی نقل میں ”پادشاہ“ کا لقب اختیار کیا۔ آخری چک اکبر کے باجگوار تھے۔ آخر کار صوبے کو مکمل طور پر سلطنت مغلیہ کا ایک حصہ بنا لیا گیا۔

کشمیر کے مسلمان حکمرانوں کے زمانی سلسلے کی وضاحت میں بہت سی مشکلات ہیں۔ لیکن پول نے انہیں غیر معتبر قرار دیا۔ ہم نے سرٹی ووٹز لے ہیگ کو سند مانا ہے۔

## 76- سلاطین گجرات (1583-1391/991-793)

### مغربی ہندوستان

ظفر خان مظفر اول	793/1391
احمد اول	814/1411
محمد کریم	846/1442
قطب الدین احمد دوم	855/1451
داؤد	862/1458

محمود اول بیگرا	862/1458
منظفردوم	917/1511
سکندر	932/1526
ناصرخان محموددوم	932/1526
بہادر	932/1526
خاندیش کامیران محمود اول	943/1537
محمود سوم	943/1537
احمد سوم	961/1554
منظفردوم، پہلا دور حکومت	968/1561
مغل فتوحات	980/1573
منظفردوم، دوسرا دور حکومت	991/1583

### مغلوں کی حتمی فتح

بحر ہند کے دیگر ساحلوں کے ساتھ اپنے تجارتی اور بحری تعلقات ہونے کی وجہ سے گجرات ایک بالخصوص امیر صوبہ تھا۔ اگرچہ محمود غزنی سوماتھ تک آیا، لیکن مسلم فتح کافی دیر بعد ہوئی۔ 697/1298 کے بعد ہی کہیں جا کر علاؤ الدین محمد خلجی کی فوجوں نے مرکزی مقامی ہندو بادشاہت یعنی انھیلاواڑا کے واگھیلوں کو شکست دی۔ چودھویں صدی کے دوران گجرات پر دہلی سے بھیجے ہوئے حکام مقرر تھے، حتیٰ کہ 793/1391 میں محمد سوم نے ظفرخان کو بھیجا۔ جب تغلقی انحطاط پذیر ہوئے تو ظفرخان خود مختار ہو گیا اور 810/1407 میں باقاعدہ خود کو مظفر شاہ کہلوانے لگا۔ نئی سلطنت کو اس کے پوتے احمد اول نے مستحکم بنایا۔ احمد اول کا زیادہ تر دور حکومت گجرات و راجپوتانہ کے ہندو راجوں اور مالوہ، خاندیش و دکن کے مسلم سلاطین کے خلاف جنگ و جدل سے عبارت تھا۔ اسی نے اپنے لیے نیا دارالحکومت احمد آباد تعمیر کیا جس نے انھیلاواڑہ کی جگہ لے لی۔ محمود بیگوا کی حکومت کے 44 سال (862-917/1458-1511) سلطنت کی تاریخ میں عظیم ترین تھے۔ ہندوؤں کے خلاف مہمات کے نتیجہ میں دیگر چیزوں کے علاوہ چامپانیر کے قلعے

پر بھی قبضہ ہوا جس کا نام بدل کر محمد آباد رکھا گیا اور سلطان نے اسے اپنا صدر مقام بنا لیا۔ درحقیقت محمود کے دور میں سلطنت گجرات نے مالوہ کے ساتھ الحاق سے پہلے اپنی انتہائی وسعت اختیار کی۔ مغربی اور جنوبی ہند کی سیاست میں محمود کے عہد کے اختتام پر ایک نیا عنصر ظاہر ہوا، یعنی پرتگیزی۔ 1498ء میں واسکو ڈے گاما کی کالی کٹ بندرگاہ پر آمد کے بعد پرتگیزی بحر ہند کی زیادہ تر تجارت کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور یوں مصر و گجرات کے تاجروں کو ایک طرف کر دیا۔ چنانچہ 931/1508 میں محمود نے مملوک سلطان قسوق الغوری کے ساتھ اتحاد کیا لیکن بمبئی کے نزدیک ابتدائی مسلم بحری فتح کے باوجود پرتگیزیوں نے بیجاپور کے عادل شاہیوں سے گو آلے لیا اور محمود کو امن قائم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ گجرات کا آخری عظیم سلطان محمود کا پوتا بہادر شاہ تھا جس نے ہندوؤں کے خلاف کمر باندھی اور مالوہ بھی فتح کیا۔ تاہم مغل ہمایوں نے اس کے کچھ مقبوضات چھین لیے۔ پرتگیزی آفت دوبارہ نمودار ہوئی اور انہیں دیوبند بخش دینے کے باوجود انہوں نے 943/1537 میں بہادر شاہ کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ اب گجرات کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا۔ تخت نشینی کے لیے جھگڑے شروع ہوئے اور بادشاہت مختلف متحارب شرفاء کے درمیان بٹ گئی۔ مایوسی کے عالم میں مغلوں کو دعوت دی گئی۔ اکبر نے گجرات پر قبضہ کر لیا۔ تاہم آخری سلطان مظفر سوم نے 1001/1593 میں اپنی موت سے پہلے سلطنت واپس لینے کی کئی کوششیں کیں۔

### 77- جوہپور کے شرقی سلاطین

(796-883/1394-1479)

ملک سرور خواجہ جہاں	796/1394
مبارک شاہ	802/1399
شمس الدین ابراہیم	804/1402
محمود شاہ	844/1440
محمد شاہ	861/1457



دہلی کے لودی سلاطین کی فتح

جو نپور بنارس کے شمال میں دریائے گوتمی کے کنارے، بہار اور اودھ کے درمیان واقع ہے اور روایت کے مطابق اسے 762/1359 میں فیروز شاہ سوم تغلق نے تعمیر کیا اور اس کا نام اپنے کزن و سرپرست محمد بن تغلق (جس کا ایک نام جو نا یعنی غیر ملکی بھی تھا) کے نام پر رکھا۔ دہلی اور بنگال کی سلطنتوں کے درمیان واقع ہونے کے باعث یہ پندرہویں صدی میں ایک طاقتور مسلمان ریاست کا مرکز بن گیا اور سلاطین جو نپور نے علاقہ کی اسلامی ثقافت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو نپور کو ”شیراز مشرق“ کہا جاتا ہے۔

اس سلطنت کی بنیاد آخری تغلقی محمود شاہ دوم کے منٹ غلام وزیر ملک سرور نے رکھی جس نے 796/1394 میں اپنے آقا کے ایماء پر اودھ فتح کیا اور پھر وہاں حقیقی حکمران بن کر رہا۔ اس نے سلطان سے ملک الشرق یعنی مشرق کا بادشاہ کا لقب حاصل کر لیا اور یہی سلطنت کی وجہ تسمیہ ہے۔ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لے پالک بیٹے مبارک شاہ نے مکمل خود مختار حکمران جیسا رویہ اختیار کیا، اپنے نام کے سکے جاری کروائے اور صرف اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے لگا۔ اس کا بھائی ابراہیم شریوں میں سب سے زیادہ صاحب جلال تھا اور اس کے تقریباً 40 سالہ دور حکومت میں سلطنت اپنی طاقت اور استحکام کے نقطہ عروج پر پہنچی۔ جو نپور میں اسلامی فن تعمیر کا ایک خصوصی مقامی انداز وجود میں آیا اور ابراہیم نے خود بھی بازوق آدمی ہونے کے ناطے اپنے دربار میں دانشوروں اور اہل قلم حضرات کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے جانشین دہلی کے لودی سلاطین کے ساتھ جنگوں میں الجھ گئے اور گوالیار پر حملہ کیا، لیکن انہیں سب سے زیادہ کامیابی اڑیسہ پر حملے میں ہوئی۔ مسلم تواریخ نگاروں کے مطابق اس دور میں جو نپور کی فوج ہندوستان میں سب سے بڑی تھی۔ آخری مشرقی سلطان حسین ایک موقع پر دہلی کے دروازوں پر آیا لیکن بہلول لودی نے اس کی آؤ بھگت نہ کی۔ اس نے حسین کو شکست دے کر بنگال میں نکال دیا۔ یوں جو نپور سلطنت دہلی کے پاس آ گیا۔

## 78- مالوہ کے سلاطین

(804-937/1401-1531)

وسطی ہند

## 1- غوری خاندان

دلاور خان حسین غوری	804/1401
الپ خان ہوشنگ	808/1405
غازی خان محمد	838/1435
مسعود خان	839/1436

## 2- خلجیوں کا خاندان

محمود شاہ اول خلجی	839/1436
غیاث شاہ	873/1469
ناصر شاہ	906/1500
محمود شاہ دوم	917-37/1511-31

## سلاطین گجرات کی فتح

مالوہ میں مسلمان حکومت چتوڑ اور اُجین کے مقامی راجپوت حکمرانوں کے ساتھ طویل اور خونریز جنگوں کے بعد ہی قائم ہوئی۔ 705/1305 میں سلطان دہلی علاؤ الدین خلجی نے ایک فوج بھیج کر مالوہ کو زیر نگین کیا اور اس کے بعد وہاں کے حاکم دہلی کی جانب سے بھیجے جانے لگے۔ حاکم مالوہ دلاور خان غوری نے 801/1398-9 میں تیمور کے حملے کے دوران بھاگے ہوئے تغلقی محمد شاہ دوم کو پناہ دی، لیکن اس دور میں تخت دہلی کو لگنے والے جھٹکے نے دلاور خان کو خود مختاری کا اعلان کرنے اور بادشاہ کا لقب اختیار کرنے کا موقع دیا۔ مالوہ کی خود مختاری جو نہور میں شریوں کی سرفرازی کے متوازی تھی۔ سلاطین مالوہ نے اپنے دار الحکومت کو ناقابل رسائی بنایا اور قلعہ مانڈو کی دیواریں مضبوط کرنے کے علاوہ اسے متعدد شاندار عمارتوں سے سجایا بھی۔

ایک موقع پر مالوہ کے غوری سلاطین نے ہندو اوڈیسا پر حملہ بولا، لیکن ان کی زیادہ تر عسکری

سرری پڑوسی مسلم حکمرانوں، مثلاً شریوں، سلاطین گجرات، سادات دہلی اور دکنی بہمنیوں کے خلاف تھی۔ اس جنگ وجدل میں انہوں نے ہندو بادشاہوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے سے گریز نہ کیا۔ 839/1436 میں وزیراعظم محمود خاں نے مالوہ کا تخت حاصل کر لیا (آخری غوری سلطان بھاگ کر گجرات چلا گیا) اور خلجی سلسلہ کی بنیاد رکھی۔

محمود اول خلجی مالوہ کے سلاطین میں عظیم ترین تھا اور چتوڑ کے راجپوتوں اور بہمنیوں کے خلاف مہمات میں متعدد خساروں کے باوجود اس نے اپنے علاقوں کو خاصی وسعت دی۔ اس کی شہرت ہندوستان سے باہر بھی گئی اور قاہرہ میں عباسی خلیفہ نے اسے اقتدار کی رسمی سند جاری کی۔ لیکن اس کے پڑپوتے محمود دوم کے دور حکومت میں ریاست میں راجپوت وزراء اور درباری نمایاں حیثیت حاصل کر گئے اور مسلم و ہندو عناصر کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ ایک موقع پر محمود کو راجا چتوڑ نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور اگرچہ اسے مالوہ میں بحال کر دیا گیا، مگر اس کی سلطنت کو 937/1531 میں بہادر شاہ نے فتح کر لیا۔ یوں خلجیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آئندہ تین عشروں کے دوران مالوہ مغل بادشاہ ہمایوں، خلجیوں کے ایک مقامی خود مختار، افغان شیر شاہ سورا اور آخر میں دوبار مغلوں کے قبضے میں آیا۔

## 79- بہمنی اور ان کے جانشین

(748-934/1347-1527)

### شمالی دکن

علاء الدین حسن باہمن شاہ	748/1347
محمد اول	759/1358
علاء الدین مجاہد	776/1375
داؤد	780/1378
محمد دوم	780/1378
غیاث الدین	799/1397

شمس الدین	799/1397
تاج الدین فیروز	800/1397
احمد اول ولی	825/1422
علاء الدین احمد دوم	839/1436
علاء الدین ہمایوں ظالم	862/1458
نظام	865/1461
محمد سوم لشکری	867/1463
محمود	887/1482
احمد سوم	924/1518
علاء الدین	927/1521
ولی اللہ	928/1522
کلیم اللہ [یہ چاروں پیدار کے وزیر اعظم امیر برید کی نگرانی میں برائے نام سلطان تھے]۔	931-4/1525-27

بہمنی سلطنت کی پانچ مقامی سلطنتوں میں تحلیل

محمد بن تغلق کے دور حکومت کے نصف آخر میں جب اس کی حاکمیت کی عمارت ڈولنے لگی تو دکن کے تازہ تازہ فتح کئے ہوئے علاقے دہلی کے اختیار سے لکلنا شروع ہو گئے۔ نہایت جنوب میں معبر کے گورنر نے خود مختاری کا اعلان کر کے مدرا کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ امیر حسن گنگو کے ہاتھوں دکن کی ٹیبل لینڈ پر قائم کردہ ریاست کہیں زیادہ طاقتور اور پائیدار تھی۔ حسن کے نسلی ماخذ بہت مبہم ہیں اور لگتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ پر جلال نہ تھے۔ اس کے فارسی النسل ہونے کے دعویٰ کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہئے۔ اس نے فارسی قومی رزمیہ میں اسفندیار کے بیٹے باہمن کا پرانا نام اختیار کر لیا تھا۔ دولت آباد میں کامیاب بغاوت کے بعد حسن نے اپنا دار الحکومت جنوب کی طرف گلبرگ میں منتقل کر دیا اور یہ مقام 80 برس تک بہمنیوں کا مرکز بنا رہا۔

بہمنیوں کی سرفرازی کا مطلب تھا کہ ایک مضبوط اور جارحانہ مسلم طاقت اب جنوبی دکن کی دو

بڑی ہندو بادشاہتوں ورنگل اور وجے نگر کے روبرو تھی۔ آئندہ تقریباً ایک سو سال تک وقتاً فوقتاً جنگ ہوتی رہی۔ احمد اول شاہ نے 830/1425 میں ورنگل کو تسخیر کر کے بہمنی ریاست میں شامل کر لیا۔ دوسری طرف وجے نگر کبھی بھی مفتوح نہ ہوئی۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس جنگ و جدل میں تو پخانے اور آتشیں اسلحہ کا استعمال ہوا۔ ان ہتھیاروں کے بارے میں انہیں جنوبی ہند کے مغرب کے ساتھ سمندری تعلق کے باعث معلوم ہوا ہوگا۔ ورنگل کی تسخیر کے بعد احمد نے اپنا دارالحکومت زیادہ وسطی بیدر کی جانب منتقل کیا اور اس نے ہجرات اور مالوہ کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف شمال میں جنگ بھی کی۔

یوں بہمنیوں نے اسلامی دنیا میں کافی شہرت حاصل کر لی، بالخصوص اپنے دربار کو علم و فن کا عظیم مرکز بنا کر۔ انہی کے دور میں مسلم فن تعمیر کا ایک مخصوص دکنی انداز معرض وجود میں آیا۔ بہمنی برصغیر کی پہلی ایسی طاقت تھی جس نے عثمانیوں کے ساتھ سفیروں کا تبادلہ کیا (محمد سوم شاہ اور محمد فاتح)۔ بہمنی ریاست عسکری اعتبار سے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستعد انتظامی ڈھانچہ بھی رکھتی تھی۔ چنانچہ ایک ماہر منتظم اعلیٰ کی ضرورت تھی، اور بہت سے ترک، فارسی، عرب وغیرہ سلطان کی خدمت میں آئے۔ اسی لیے پندرہویں صدی کے دوران دکنی مسلمانوں اور ان "پردیسوں" کے مابین کھچاؤ پیدا ہوا۔ ریاست میں بڑھتی ہوئی داخلی بے ترتیبی اور حکمرانوں کا غیر موثر پن کافی حد تک انہی رقابتوں کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ پندرہویں صدی کے اختتام پر انتشار کی علامات ظاہر ہوئیں۔ آخری چار سلاطین ترکی امیر قاسم بریدی اور اس کے خاندان کی نگرانی میں رہنے والے بیکار افراد تھے، اور جب آخری حکمران 934/1527 میں فوت ہوا تو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

اس کے بعد سے لے کر اکبر اور اورنگزیب کی فتوحات تک مسلم دکن پانچ مقامی سلطنتوں میں منقسم رہا جن کے حکمران بہمنیوں کے سابق ملازمین ہی تھے۔

شروع میں بریدی خاندان نے بیدر سے بہمنی سلطنت کے علاقوں کو کنٹرول کیا اور پھر خود مختار برید شاہیوں کے طور پر حکومت کی، حتیٰ کہ 1028/1619 میں بیجاپور کے عادل شاہیوں نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا۔ تاہم بہمنیوں سے الگ ہونے والی پہلی علاقائی سلطنت برار کے عماد شاہیوں (890-980/1485-1592) کی تھی جو برار کے گورنر فتح اللہ عماد الملک کی اولاد

تھے۔ عماد الملک کے علاقوں کو نظام شاہیوں نے چھینا۔ عادل شاہیوں کا تعلق ترک نسل کے حاکم بیجا پور یوسف عادل خان سے تھا، اس کی سلطنت بیجا پور پر اورنگزیب کے قبضے تک جاری رہی۔ نظام شاہی سلطنت (1633-1491/1044-896) کا آغاز جنار کے حاکم احمد بن نظام الملک کے ساتھ ہوا اور پھر اس نے احمد نگر اور دولت آباد پر بھی حکومت کی۔ نظام شاہیوں کو اکبر نے شکست دی لیکن برائے نام حکمرانوں کی ایک نسل شاہ جہاں کے دور تک موجود رہی۔ آخر کار گولکنڈہ کے قطب شاہی (1687-1512/1098-918) ورنگل کی پرانی ہندو بادشاہت کے طبعے میں سے ابھرے۔ ان کا بانی قراقرم نسل کا ایک ترک کمانڈر سلطان قلی قطب الملک تھا جس کو محمود شاہ بہمنی نے تلنگانہ کا گورنر نامزد کیا تھا۔ اس کا سلسلہ اورنگزیب کے عہد تک جاری رہا۔ جس فضا میں ان پانچوں سلطنتوں نے ترقی کی وہ رقابت اور سازشوں سے لبریز تھی جس کے نتیجے میں دکن میں ایک ہندو اہلیانے نوکام عمل شروع ہوا۔ برید شاہیوں اور عماد شاہیوں کے سوا سب شیعہ تھے (آخری بہمنیوں میں سے بھی کچھ ایک نے اس مسلک کی حمایت کی) اور اس دور میں صفوی فارس کے ساتھ قریبی سفارتی و ثقافتی رابطے رکھے گئے۔ تاہم یہ تعلقات انہیں مغلوں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کافی نہ تھے۔

### 80- خاندیش کے فاروقی سلاطین

(1601-1370/1009-772)

#### شمالی دکن

ملک راجا فاروقی	772/1370
ناصر خان	801/1399
عادل خان اول	841/1437
میران مبارک خان اول	844/1441
عادل خان دوم	861/1457
داؤد خان	909/1503

غازی خان	916/1510
عالم خان	916/1510
عادل خان سوم	916/1510
میران محمد اول	926/1520
احمد شاہ	943/1537
مبارک شاہ دوم	943/1537
میران محمد دوم	974/1566
حسن شاہ	984/1576
راجا علی خان یا عادل شاہ چہارم	985/1577
بہادر شاہ	1005-9/1597-1601

### مغلوں کی فتح

ریاست خاندیش (خانوں کا دیس) مالوہ کے عین جنوب کی جانب دریائے تاپتی کی وادی میں اور دکن کی بہمنی سلطنت کے شمال میں واقع ہے۔ سلطنت کا بانی ملک راجا اصل میں بہمنیوں کا ملازم تھا لیکن پھر فیروز شاہ سوم کے دربار میں منتقل ہوا اور سلطان دہلی نے اسے شمالی دکن کے مخصوص صوبوں کا گورنر تعینات کر دیا۔ تعلقوں کے زوال کے برسوں کی گڑ بڑ میں ملک راجا نے مالوہ میں اپنے پڑوسی دلاور خان کی پیروی کرتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس کے جانشینوں کو فاروقی کہا گیا، کیونکہ وہ حضرت عمر بن الخطاب کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے بیٹے ناصر خان نے اسیر گڑھ کا قلعہ ہندو سردار سے چھین لیا اور اس کے قریب ہی برہان پور آباد کیا جو خاندیش کے سلاطین کا صدر مقام بن گیا۔ عادل خان دوم کے عہد میں خاندیش نے بہت زیادہ ترقی کی۔ وہ گجرات کے سلاطین کی نیابت کا طوق گلے سے اتار پھینکنے میں کامیاب ہو گیا مگر اپنی طاقت کو مشرق میں گونڈ وانا اور جھاڑ کنڈ کے ہندو راجاؤں کی جانب وسعت دی اور ان مہمات کے نتیجے میں اسے شاہ جھاڑ کنڈ (جنگل کا بادشاہ) کہا جانے لگا۔

سولہویں صدی کے ابتدائی برسوں میں خاندیش جانشینی کے تنازعات کا شکار رہا جن کا نتیجہ

بیرونی طاقتوں بالخصوص سلاطین گجرات اور نظام شاہیوں کی مداخلت کی صورت میں نکلا۔ فاروقیوں نے اپنے کمزور وسائل کے ساتھ طاقتور سلاطین گجرات کے ساتھ صلح جوئی کی پالیسی اپنائی اور ایک موقع پر میران محمد اول کو گجرات کے امیدوار وارث کا درجہ دیا گیا، تاہم وہ اپنے دعویٰ کو عملی صورت ملنے سے پہلے ہی مر گیا۔ مغلوں کے ساتھ فاروقیوں کی پہلی لڑائی 962/1555 میں ہوئی اور موخر الذکر اکبر اعظم کے ماتحت بن گئے۔ لیکن 993/1585 کے بعد براہ راست مغل دباؤ بڑھا، بہادر شاہ نے مغلوں کو ناراض کیا اور 1601/1009 میں اس کا قلعہ اسیر گڑھ اکبر نے لے لیا اور باقی ماندہ فاروقیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔

### 81- شاہان مغلیہ

(932-1274/1526-1858)

ظہیر الدین بابر	932/1526
ناصر الدین ہمایوں، پہلا دور حکومت	937/1530
دہلی کے سوری سلاطین	947-62/1540-55
ہمایوں، دوسرا دور حکومت	962/1555
جلال الدین اکبر اول	963/1556
نور الدین جہانگیر	1014/1605
داور بخش	1037/1627
شہاب الدین شاہ جہاں اول	1037/1628
مراد بخش (گجرات میں)	1068/1657
شاہ شجاع (بنگال میں 1070/1660 تک)	1068/1657
محی الدین اورنگزیب عالمگیر اول	1068/1658
اعظم شاہ	1118/1707
کام بخش (دکن میں)	1119/1707



شاہ عالم اول بہادر شاہ اول	1119/1707
عظیم الشان	1124/1712
معز الدین جہاندار	1124/1712
فرخ سیر	1124/1713
شمس الدین رفیع الدرجات	1131/1719
رفیع الدولہ شاہ جہاں دوم	1131/1719
نیکو سیر	1131/1719
ناصر الدین محمد	1131/1719
احمد شاہ بہادر	1161/1748
عزیز الدین عالمگیر دوم	1167/1754
شاہ جہاں سوم	1173/1760
جلال الدین علی جوہر شاہ عالم دوم، پہلا دور حکومت	1173/1760
بیدار بخت	1202/1788
شاہ عالم دوم، دوسرا دور حکومت	1203/1788
معین الدین اکبر دوم	1221/1806
سراج الدین بہادر شاہ دوم	1253-74/1837-58

براہ راست برطانوی قبضہ

مغلیہ نسل کا بانی بابر ایک چغتائی ترک تھا جو پانچ پشٹی قبیلے سے اورنخیاں میں چنگیز خان سے الگ ہوا۔ اس کا باپ عمر شیخ بن ابی سعید فرغنے کے وسطی ایشیائی خطے میں ایک چھوٹی سی تیموری جاگیر پر حکمران تھا، لیکن بابر نے دیکھا کہ شیبانی اوزبیکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے اس کے لیے وہاں قدم جمائے رکھنا ناممکن بنا دیا تھا۔ چنانچہ 910/1504 میں اس نے کابل کو فتح کیا اور تقریباً فوراً ہی ہندوستان میں دریائے سندھ تک یلغار کی۔ لگتا ہے کہ بابر نے ہندوستان کا رخ تبھی کیا تھا جب اسے اپنے وسط ایشیائی وطن میں طاقت حاصل کرنے میں بار بار ناکامی ہوئی تھی۔ لیکن

آخر کار دہلی کے لوہمی دربار کے ایک ناراض دھڑے نے اسے مداخلت کی دعوت دی۔ اس نے 932/1526 میں پانی پت کے مقام پر سلطان ابراہیم دوم کو شکست دی اور اگلے ہی برس آگرہ کے قریب کانوا کے مقام پر راجپوت سرداروں کو ہرایا۔ تاہم یہ فتوحات محض ایک آغاز تھیں۔ ابھی تک مغلیہ طاقت کا کوئی ٹھوس ڈھانچہ موجود نہ تھا اور شیر شاہ سوری کی قیادت میں افغان سرداروں کے رد عمل کے باعث بابر کے بیٹے ہمایوں کو شمالی ہندوستان سے بھاگ کر سندھ جانے اور پھر پندرہ برس تک افغانستان میں رہنا پڑا۔ شیر شاہ کے جانشینوں کی کمزوری نے ہی ہمایوں کے لیے یہ ممکن بنایا کہ وہ 962/1555 میں واپس آ کر دہلی اور آگرہ میں اپنی حکومت بنائے۔ اس کے بعد اکبر اعظم کا پچاس سالہ دور حکومت آیا۔ شمالی اور وسطی ہندوستان میں مغل اقتدار کو مضبوط بنایا گیا: مالوہ اور آزا اور راجپوت ریاستیں، گجرات اور خاندیش کو تحفظ دیا گیا اور 984/1576 تک بنگال کو ایک دفعہ پھر دہلی کے ماتحت بنا دیا گیا تھا۔ شمال مغربی سرحد (جو بہت سے حملہ آوروں کا ہندوستان میں آنے کا راستہ تھا) کو محفوظ بنانے کے لیے کابل اور قندھار حاصل کئے گئے، اگرچہ قندھار آنے والے وقتوں میں فارسیوں کے ساتھ فساد کی جڑ بنا رہا۔ دکن میں ریاستوں کے شمالی سلسلے کو سلطنت سے ملحق یا اکبر کی حاکمیت کا تابع بنایا گیا، لیکن مغلوں کا عسکری اور انتظامی کنٹرول ابھی تک اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہاں پوری طرح حاکمیت قائم کی جاسکتی، یہ کام اورنگزیب کے ہاتھوں انجام پانا تھا۔ سفارتی سطح پر ابتداء میں صفویوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا تبادلہ علاقوں کی حد بندی کے بارے میں اوز بیگ عبداللہ خان کے ساتھ معاہدے سے کیا گیا۔ بحیرہ عرب میں پرتگیزیوں کے حوالے سے مشترکہ خطرے کے متعلق عثمانیوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، لیکن دہلی اور استنبول کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک سنی اتحاد وجود میں نہ آسکا۔

چنانچہ اکبر ایک عظیم جرنیل اور ریاست کار تھا، مگر وہ ایک مفکر اور مذہبی مصلح کی حیثیت میں شاید زیادہ باعث دلچسپی ہے۔ اس کا دین الہی تمام مذاہب میں اس کی گہری دانشورانہ دلچسپی کا مظہر ہے۔ ہندوؤں نے سلطنت کی انتظامیہ میں معمول سے کہیں زیادہ شرکت کی۔ اکبر ہی کے عہد میں سلطنت کے حکومتی نظام نے صورت اختیار کی اور اس نے مختلف نسلی عناصر کو ایک حکمران طبقے کی صورت میں متحد کیا جس میں ترک، افغان، فارسی اور ہندو شامل تھے۔ یہ طبقہ منصب داروں پر

مشمول تھا جو مخصوص تعداد میں فوج مہیا کرنے کے پابند تھے۔ سرکاری تنخواہیں جزو اجا گیروں کی صورت میں دی جاتیں۔ تاہم یہ جاگیریں مغرب کے اسلامی ممالک کے قطعاعات کی طرح موروثی نہیں تھیں۔ اگرچہ حکمران نظریاتی اعتبار سے نہایت سیکولر تھا، لیکن ابتدائی مغل آمروں کی بجائے فیاض تھے نیز سلطنت کی وسعت نے حد سے زیادہ مرکزیت نہ ہونے دی۔ اکبر کے جانشین جہانگیر اور شاہ جہاں نے دور دراز علاقوں کے لیے نفاذ اطاعت کی پالیسی جاری رکھی..... میواڑ کے راجپوتوں، دکن کے شیعی سلاطین، بنگال کے ساحل پر پرتگیزیوں کے لیے..... لیکن وسطی ایشیا اور ہندوستان کو ملا کر ایک وسیع سنی سلطنت بنانے کے لیے شاہ جہاں کے عزائم کا نتیجہ صرف ناکامی اور بے عزتی کی صورت میں برآمد ہوا (1057/1647)۔

شاہ جہاں کی موت کے بعد تخت و تاج حاصل کرنے کی خاطر وحشیانہ لڑائی میں اورنگزیب نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو دو مرتبہ شکست دی (9-1658/9-1068) اور اپنا پچاس سالہ دور حکومت شروع کیا۔ اس نے اپنے پیشروؤں کی آزاد خیالی کی روایات کو توڑ دیا۔ اس نے نرم سماجی و مذہبی طور طریقوں پر حملہ کیا جو ہر طرف موجود ہندوؤں کے اثر کے تحت ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے۔ اورنگزیب نے اٹھارہویں صدی میں دہلی کے شاہ ولی اللہ کے بیان کردہ مخطوط پر اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ جزوی طور پر اورنگزیب کی پالیسی ہندو ازم کے نئے عقلی و مادی جوش و جذبے کے خلاف رد عمل تھی، تاہم اس نے مغلیہ عسکری و انتظامی ڈھانچے میں ہندوؤں کو شامل رکھا۔ اس کی عسکری کوششوں کا مقصد شروع میں شمال مغربی سرحد کو مضبوط بنانا تھا جہاں پٹھانوں کو قابو کرنے کے لیے شدید لڑائی ضروری تھی۔ بعد میں وہ دکن کے بارے میں فکر مند ہوتا گیا، باقی ماندہ شیعی راجے مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے، مراٹھے (مرہٹے) محدود تھے؛ تاہم یہ آخری کامیابی محض عارضی ثابت ہوئی اور اورنگزیب کے دور میں دکن میں مسلم اثر و رسوخ کا نقطہ عروج دوبارہ کبھی نہ آیا۔

1118/1707 میں اورنگزیب کی وفات پر مغلوں کا مختصمانہ زوال شروع ہوا۔ باری باری کئی ہوس پرست حکمران بنے، جبکہ سلطنت کے دور دراز علاقے مراٹھوں، جاٹوں، سکھوں اور روہیلہ افغانوں وغیرہ کے اختیار میں آ گئے۔ 1151-2/1738-9 میں نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے اور دہلی پر قبضے اور اس کے بعد احمد شاہ درانی کی پے در پے مہمات نے سلطنت کو مادی اور

اخلاقی لحاظ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہر جانب سے ہندو سر اٹھانے لگے تھے اور انگریزی عنصر ساحلی علاقوں کے علاوہ برصغیر کے اندر بھی اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ انگریز اپنی طاقت کو بنگال سے اودھ، وسطی ہندوستان اور راجپوتانہ میں وسعت دے رہے تھے، جبکہ دہلی میں مغل صرف لاچاری سے دیکھ ہی سکتے تھے۔ شاہ عالم دوم انگریزوں کا قیدی تھا اور 1274/1858 میں آخری مغل شہنشاہ کو غدر میں معاونت کرنے کے الزام میں معزول اور جلا وطن کر دیا گیا۔

## 82- افغانستان کے بادشاہ

( 1160- /1747- )

### 1- درانی

احمد شاہ درانی	1160/1747
تیمور شاہ	1187/1773
زمان شاہ	1207/1793
محمود شاہ، پہلا دور حکومت	1215/1800
شاہ شجاع، پہلا دور حکومت (کابل میں؛ 1215/1800 سے پشاور میں حکمران)	1218/1803
محمود، دوسرا دور حکومت (کابل میں 1233/1818 اور ہرات میں 1245/1829 تک)	1224/1809
علی شاہ	1233/1818
شجاع، دوسرا دور حکومت	1255/1839
فتح جنگ	1258/1842

### 2- بارکزی

دوست محمد	1234/1819
شیر علی، پہلا دور حکومت	1280/1863

افضل	1283/1866
شیر علی، دوسرا دور حکومت	1284/1867
محمد یعقوب خان	1296/1879
عبدالرحمان خان	1297/1880
حبیب اللہ	1319/1901
امان اللہ	1337/1919
نادر شاہ	1348/1929
محمد ظاہر شاہ	1352- /1933-

افغانستان نے صفویوں کے انحطاط کے برسوں میں فارس کے امور میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے اٹھارہویں صدی کے تیسرے عشرے کے دوران فارس پر چڑھائی اور قبضہ کر لیا۔ اگرچہ نادر شاہ نے اس افغان غلبے کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس نے اپنی افواج میں افغانوں کی ایک بڑی تعداد بھرتی کی۔ اس کے سرکردہ سالاروں میں سے ایک احمد خان تھا جس کا تعلق افغانوں کے ابدالی قبیلے کی سدوزئی شاخ سے تھا۔ ابدالی قبیلہ اصلاً ہرات علاقے سے تعلق رکھتا تھا لیکن نادر شاہ نے اسے قندھار میں لا کر آباد کیا۔ جب 1160/1747 میں نادر شاہ قتل ہوا تو افغان سپاہیوں نے احمد کو اپنا شاہ منتخب کر لیا اور اس نے دُرُوزِ اہل کالقب اختیار کیا۔ اسی لیے سلطنت کو دُرُوزانی کا نام دیا گیا۔ احمد شاہ خود کو نادر شاہ کی مشرقی فتوحات کا وارث قرار دیتا تھا اور اس نے متعدد مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا، مغلوں سے لڑائیاں لڑیں اور 1170/1757 میں دہلی و آگرہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ شمال مغربی ہندوستان میں ایک وسیع سلطنت قائم کی گئی جس میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب و کشمیر کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ 1174/1761 میں پانی پت کی فتح نے مراٹھوں کے عزائم کو فیصلہ کن طور پر محدود کیا۔ خراسان میں احمد شاہ نے نادر کی اولاد، ناپینا شاہ رخ پر ایک پروٹیکٹوریٹ قائم کیا، اگرچہ احمد شاہ کے پوتے زمان شاہ کے دور حکومت میں افغانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قاجاروں کی پیش قدمی اور شاہ رخ کی معزولی کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں۔ درحقیقت، زمان شاہ کی حکومت دُرُوزانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، خاندان اندرونی

تضادات کا شکار ہوا اور سکھوں و مراٹھوں نے افغانوں کو ان کی بیشتر ہندوستانی مقبوضات سے نکال باہر کیا۔

دریں اثناء بارسوخ بارکنزی یا محمد زئی افغانوں کا ستارہ طلوع ہو رہا تھا اور 1234/1819 میں دوست محمد نے محمود کو کابل سے بے دخل کیا، بیس سال بعد رسمی طور پر امیر کابل کا لقب اختیار کر لیا۔ ہندوستانی مقبوضات چھن جانے سے افغان سلطنت اب جغرافیائی لحاظ سے صرف خاص افغانستان کے پہاڑی اور سطح مرتفع خطے پر مبنی تھی۔ اسی جغرافیائی حالت نے انھیں بیسویں صدی میں ہرات پر فارسی حملوں، شمال میں روسی دباؤ اور برطانیہ کے ساتھ دو جنگوں کے باوجود بچائے رکھا۔ دوست محمد نے ہندوستان میں مداخلت کرنے سے خود کو ہر ممکن حد تک باز رکھا اور غدر 1857ء سے بھی لاتعلق رہا۔ عبدالرحمان خان نے عظیم طاقتوں کے ساتھ ہم آہنگ تعلقات قائم کئے۔ 1337/1919 میں امان اللہ کی دست درازیوں کے نتیجے میں ہی ان تعلقات میں دراڑ پیدا ہوئی۔ امان اللہ خان کی مغربیت پسندی پر مبنی جلد باز کوششیں اس کے زوال کا باعث بنیں اور تاج و تخت موجودہ خاندان کو مل گیا۔

(یاد رہے کہ یہ کتاب 1967ء میں شائع ہوئی تھی۔ بیسویں صدی کی آخری تین دہائیوں میں افغانستان بہت سی سیاسی تبدیلیوں کا شکار ہوا۔)

## مترجم کا نوٹ

”اسلامی تاریخ“ میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو (چاہے وہ محقق ہو یا عام قاری) حکمرانوں، سلطنتوں، گورنروں اور دیگر حکام کی مستند فہرستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں شینلے لین پول کی کتاب "Mohammaden Dynasties" (لندن 1893ء) کو بہت سراہا گیا۔ پانچ برس بعد اس کتاب کا ترجمہ روسی زبان میں ہو گیا اور انہوں نے متعدد وسطی ایشیائی سلطنتوں کا اضافہ کیا۔ پھر استنبول میں عجائب گھروں کے ڈائریکٹر Halil Edhen نے اناطولیہ کی ترک سلطنتوں کے بارے میں تازہ معلومات مہیا کیں (1927ء)۔ اس کے بعد بھی مسلسل کوششیں اور تحقیق جاری رہی جس کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں موجود اس کتاب کی صورت میں برآمد ہوا۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1967ء میں اور دوسری مرتبہ 1980ء میں تصحیحات کے ساتھ شائع ہوئی (ایڈنبرگ یونیورسٹی پریس)۔

موضوع کے حوالے سے ایک قابل غور بات اصطلاح ”اسلامی“ کا استعمال ہے۔ کیا سلطنتیں کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیا کسی سلطنت کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو مذہب کے عروج و زوال کے ساتھ منسلک کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا بادشاہ کے عیسائی یا مسلمان ہونے سے اس کی سلطنت بھی مسیحی یا اسلامی بن جاتی ہے۔ یہ سوالات ایک الگ کتاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں ہم چند سطروں میں اپنی رائے دینے پر ہی اکتفا کریں گے۔

راقم الحروف کے خیال میں حکومتوں اور سیاسی واقعات کو مذہبی حد بندی میں رکھ کر دیکھنا درست نہیں۔ اگر ہم ”مسلمانوں“ کی یا ”اسلامی“ تاریخ میں مثلاً صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یقیناً نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں کی تاریخ بھی ہوگی۔ غالباً ہر مذہب کے ماننے والوں نے اپنی اپنی مذہبی و سیاسی کامیابیوں کو بیان کرنے کے لیے یہ حد بندی قائم کی۔ نویں صدی ہجری کے ایک غیر عرب مسلمان مصنف ابن فضلان کے سفر نامہ وسطی ایشیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے ”مسلمان“ کتنے کم مسلمان اور کتنے زیادہ ترک وغیرہ تھے۔ یہی حال دیگر اقوام کا بھی تھا۔

بہر حال اس کتاب میں ان بادشاہوں کی زمانی ترتیب میں تدوین کی گئی ہے جو خود اور ان کے بیشتر عوام بھی کلمہ گو تھے۔ اگرچہ بادشاہوں کا کلمہ گو ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکمرانوں کو حکمرانوں کے طور پر ہی لینا چاہیے۔





تمام اسلامی سلطنتوں اور سلاطین کی سلسلہ وار عہد بہ عہد تفصیل کی ضرورت طویل عرصہ سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اس کتاب میں اسی ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے 1400 سال کے دوران قائم ہونے والی 82 سلطنتوں کا تذکرہ زمانی ترتیب میں کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر سلطنت کے قیام اور انحطاط کی سیاسی وجوہ بھی بیان کی گئی ہیں۔

یہ کتاب تاریخ اور تہذیب کے طالب علموں کے لیے قیمتی اور مستند معلومات رکھتی ہے۔ مصنف کلیفورڈ ایڈمنڈ بوسورتھ یونیورسٹی آف مینچسٹر میں علوم عربیہ کا پروفیسر تھا۔ اس نے یہ کتاب تیار کرتے وقت اس حوالے سے کی گئی تمام سابق کاوشوں کو مد نظر رکھا۔ بعد میں روسی مترجمین نے کچھ درستگیاں کیں تو دوسرے ایڈیشن میں انھیں بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ ترجمہ دوسرے ایڈیشن کا ہی ہے۔